

لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اھواء قوم قد ضلوا
من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواہ السبیل (المائدہ: ۷۷)
ترجمہ: دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو
جو پہلے گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے

و علی آتک و اصحابک یا حبیب اللہ

الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ

مومنین پیش فتح و پس فتح سب

جس مسلمان نے دیکھا انہیں اک نظر

اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام

اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام

دلائل نوریہ

بر

مسائل ضروریہ



طارق محمود نقشبندی

مکزی جماعت اہلسنت گوجرخان

A-1

657

3180

نحمدہ و نصلی و نسلم علیٰ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم
 بسم اللہ الرحمن الرحیم " محمد رسول اللہ ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء
 بینہم "۔

نہیں جاتی متاعِ لعل و گہر کی گراں یابی _ متاعِ غیرت و ایمان کی ارزانی نہیں جاتی

ترجمہ: محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے اصحاب کفار پر سخت اور آپس میں مہربان (نرم دل) ہیں۔ (الفح: ۲۹)

قرآن مجید کے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جن کی تعریف و توصیف، ایمان و اعمال کا قرآن مجید نے خوب نقشہ باندھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مومنین، مسلمین، متقین، محسنین، مصلحین، اور اولیاء اللہ وغیرہ کے عظیم القابات سے نوازا ہے اور ان کے فسق و فجور سے مبرا ہونے کی گواہی و شہادت دی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا لازوال، لاریب اور غیر متبدل (تبدیل نہ ہونے والا) سچا کلام ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بیان کیے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دائمی و مستقل کمالات ایسے قطعی ہیں کہ جن میں کسی تردید و شک یا تغیر و تبدل کا ہرگز کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ "عالم الغیب و الشهادة" (یعنی چھپی و ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے) اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے محبوب ﷺ کے پیارے صحابہ رشد و ہدایت اور اخلاص و للہیت کی راہِ حق سے ہرگز ادھر ادھر نہیں ہوں گے یعنی ہمیشہ راہِ حق پر قائم و دائم رہیں گے یہی وجہ تھی کہ ان نفوسِ قدسیہ کی کفار و منافقین بھی عیب جوئی نہ کر

سکے حالانکہ اسلام لانے کی وجہ سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سخت دشمن تھے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی ایسی بات ہوتی جو آج کل کے معاندین و حاسدین بیان کرتے ہیں تو کفار و منافقین ضرور ان باتوں کو اچھالتے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کے پیارے یاروں کی شان و عظمت توراہ و انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے جس پر قرآن مجید کی گواہی موجود ہے "مثلهم فى التوراة و مثلهم فى الانجيل" (فتح: ۲۹) اس بے مثال جماعت صحابہ کرام کے دیگر لاثانی اوصاف و کمالات اور لافانی رفعت درجات کا مقابلہ غیر صحابی کے لیے ممکن نہیں کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ایک کلو جو غیر صحابی کے پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے سے افضل ہیں۔

پوری امت مسلمہ کا چودہ سو سال سے یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بحالت ایمان ایک لمحہ و آن کے صحبت و زیارت کا شرف رکھنے والے صحابی کی عظمت کو کوئی غوث، قطب، ابدال جس کا تمام عمر ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ضائع نہ ہوا ہو نہیں پہنچ سکتا یعنی اگر صحابہ کرام کے دیگر اوصاف و کمالات جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہ نہ بھی ہوتے تو صرف ایک لمحہ کا شرف صحابت ایسا عظیم شرف ہے کہ جس کا نعم البدل ممکن نہیں ہے اور جو اب سرکارِ دو عالم ﷺ کے وصال کے باعث محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے، حاصل نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ فضائل و کمالات جو اللہ و رسول نے قرآن و احادیث میں قطعی و یقینی طور پر بیان کر دیئے ہیں ان کا مقابلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے تمام عمرِ حق و صواب پر قائم رہنا روزِ روشن کی طرح یقینی ہے، جس

کا انکار کو ردیدہ و عقل کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ صحابہ کرام کی امانت و دیانت، صداقت و شرافت، تزکیہ و طہارت بھی نبی کریم ﷺ کا ایک معجزہ ہے،

تمام صحابہ نفس صحابت میں برابر ہیں اگرچہ درجات صحابت میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے جس طرح تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ و التسلیم نفس نبوت و رسالت میں برابر ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت "لانفرق بین احد من رسله" (البقرہ: ۲۸۵) کے تحت ہم کسی ایک رسول کی بھی رسولوں میں سے تفریق نہیں کر سکتے اور حکم قرآن "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" (البقرہ: ۲۵۳) ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

کمال احتیاط سے اہلسنت نے ان آیات کی روشنی میں حسن عقیدہ کی انتہائی خوبصورت راہ نکالی ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء و مرسلین بعض بعض سے ادنیٰ ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ سارے اعلیٰ ہیں اور کچھ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہیں ادنیٰ کوئی بھی نہیں لہذا کسی ایک نبی کی شان میں ادنیٰ تخفیف و تقصیر کفر ہے بلا تشبیہ اسی طرح تمام صحابہ کرام عادل و امین بقیہان سید المرسلین ﷺ بڑی شان والے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کل کا انکار اور ایک کی شان میں بھی معمولی تخفیف و توہین کرنے والا کل کی توہین کا مرتکب قرار پائے گا اور وہ ضرور تھلیل و تفسیق کی راہ پر ہوگا۔ کیونکہ اہلسنت و الجماعت کے نزدیک صحابہ کرام کے متعلق کذب و عناد ممکن ماننے سے ابلاغ قرآن و سنت میں نقص و شک لازم آتا ہے جس کے باعث پھر شریعت اسلامی سے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا (مذکورہ بالا افکار و خیالات کی تفصیلات درکار ہوں تو مکتوباتِ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوب نمبر ۱۵، ۲۷، ۳۶، ۵۴، ۵۹، ۸۰، ۹۶، ۱۲۰، ۲۲۹، ۲۵۱، ۳۵۱ خصوصی طور پر ملاحظہ کیے جا سکتے

ہیں) مجدد صاحب فرماتے ہیں صحبتِ نبوی کی برکات اور مشاہدہ انوار مصطفیٰ ﷺ کے نتیجہ کا شرف ایسا ہے کہ صحابہ میں سب سے کم مرتبہ کسی صحابی کے مرتبے کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر حضرات تمام تر عظمتوں کے باوجود نہیں پہنچ سکتے (مکتوبات شریف) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا تن من و دھن سب کچھ قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمان "اطيعوا الله واطيعوا الرسول" (النساء: ۵۹) اطاعت کرو اللہ کی اور رسول ﷺ کی۔

خدا و مصطفیٰ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو کامل نمونہ اور عملی تفسیر پیش کی اس کی مثال تاریخ کائنات میں ملنا ناممکن ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اور آپ کا خدا جنگ کریں ہم یہیں بیٹھیں گے (القرآن)۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ مقدس و خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی قیادت و امامت میں نماز، جہاد، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر ہر طرح کے اعمالِ صالحہ ادا کرنے کا ہزاروں مرتبہ شرف حاصل کیا جن کی قبولیت پر کسی شک کی گنجائش نہیں کیونکہ جب سرکارِ دوعالم ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں تو پھر آپ ﷺ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا یقینی ہوا لہذا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے محبوب ﷺ کی معیت میں اعمالِ بجالانے والوں کے اعمال کو قبول نہ فرمائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ﷺ کے "ید اللہ" والے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور قرآن پاک نے "هو ستمکم المسلمین" (الحج: ۷۸) فرما کر جن کے مسلمان ہونے کی سند قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ "ان الذین سبقت لهم منا الحسنیٰ اؤ لفق عنها مبعدون" (الانبیاء: ۱۹)

ترجمہ: بیشک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ صحابہ کرام گمراہ نہیں ہوں گے "وما کان اللہ لیضل قوماً بعد اذ ہداهم" (التوبہ: ۱۱۵) ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کسی پلید اور منافق کو صحابہ کرام کی پاک جماعت میں برداشت ہی نہیں کرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ما کان اللہ لیذر المشومنین علیٰ ما انتم علیہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب" (ال عمران: ۱۷۹) ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ پاکوں اور خبیثوں کو اکٹھا رہنے دے یہاں تک کہ وہ پاک و خبیث کو جدا کریگا۔ آیت سے ثابت ہوا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفر و نفاق اور فسق و فجور کی خباثوں اور آلاشوں سے مبرا ہی نہیں بلکہ منافقوں کے اختلاط سے بھی پاک کر دئے گئے تھے۔ اس قرآنی صراحت کے بعد ان میں کسی کے منافق ہونے کا خیال کرنا یا کینہ و خباثت کی طرف صحابہ کو منسوب کرنا بڑی خباثت ہے فرمایا "وبشر الذین امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم" (یونس: ۲) ترجمہ: اور خوش خبری ہے ایمان والوں (صحابہ) کے لیے کہ ان کا اسلام لانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا ہے۔ "وان اللہ لہد الذین امنوا الی صراطٍ مستقیم" (الحج: ۵۳) ترجمہ: اور بیشک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صراطِ مستقیم پر چلاتا ہے پھر اسکی شان کے خلاف ہے کہ ہدایت کے بعد انہیں گمراہ کرے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا وعدہ فرماتا ہے اور انہیں دوزخ سے اتنا دور رکھے گا کہ وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہ سہیں گے۔ "فالذین امنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر" (الحمدید: ۷) ترجمہ: پس (صحابہ وہ) جو ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ "قل ہذہ سیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی" (یوسف: ۱۰۸) ترجمہ: محبوب تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف

بلا تا ہوں اور میرے قدموں پر چلنے والے (صحابہ) دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔" و کلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر" (المخید: ۱۰) ترجمہ: اور ان سب (صحابہ) سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم راہ حق سے نہیں پھریں گے) "والذین امنوا باللہ ورسله اولئک ہم الصدیقون والشهداء عند ربہم لہم اجرہم و نورہم" (المخید: ۱۹) ترجمہ: اور وہ جو اللہ اور رسولوں پر ایمان لائے وہی کامل سچے ہیں دوسروں پر گواہ ہوں گے اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ثواب اور نور ہے۔" والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم" (نبی ﷺ کے صحابہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "من یؤمن باللہ ینہد قلبہ" (التغابن: ۱۱) ترجمہ: اللہ پر ایمان لانے والوں (صحابہ) کے دل ہدایت پر ہوتے ہیں۔ ہو اجتنبکم اللہ تعالیٰ نے اے اصحاب نبی ﷺ تم کو چن (پسند) کر لیا "واللہ ولی المؤمنین" (ال عمران: ۶۸) ترجمہ: اللہ تعالیٰ مومنین (صحابہ) کا ولی ہے۔" والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا و اہلہا" (الف: ۲۶) ترجمہ: (صحابہ کے لیے اللہ نے) پرہیزگاری کو لازم کر دیا ہے۔ اور وہی اس کے زیادہ حق دار اور اہل تھے۔ و لکن اللہ حبیب الیکم الایمان و زینۃ فی قلوبکم و کرہ الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اآلئک ہم الراشدون (۷) فضلا من اللہ و نعمۃ واللہ علیم حکیم ۵ (الحجرات: ۸) ترجمہ: لیکن اللہ نے (صحابہ) کے لیے ایمان کو پیار اور دلوں میں آراستہ کر دیا اور کفر اور نافرمانی اور گناہ تمہیں ناگوار و ناپسند کر دیئے ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں پس اللہ کا ان پر فضل و احسان ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ صحابہ کرام گمراہ و نافرمان نہیں

ہوں گے ان کے بے عیب اور سچے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر صحیح عقائد اور اعمال کو پھیلا نا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ضمیر و ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقویٰ، رشد و ہدایت اور اوصاف حمیدہ کا نور کچھ ایسا رچا بسا دیا کہ اب کبھی بھی کوئی ان سے نور حق کو جدا نہیں کر سکتا، جیسے پھول سے رنگ و بو جدا نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گناہوں سے پاک ہونے کی سند اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے جسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ترجمہ: کما امن الناس (بقرہ ۱۳) اور فان امنوا بمثل ما امنتم بہ (البقرہ: ۱۳۷) یعنی ایمان لاؤ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح۔

ان قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو سچے ایمان کی ہمیشہ کے لیے کسوٹی و معیار بنا دیا ہے جو کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیوقوف کہے خود بیوقوف ہے اور پکا بے شعور ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مذاق کرے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ "فاتبعونی ینحبکم اللہ" (ال عمران: ۳۱) کے تحت اتباع رسول ﷺ کے باعث اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ "ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطہرکم ولینم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون" (المائدہ: ۶) سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنگی نہیں چاہتا بلکہ طہارت و پاکیزگی اور پوری نعمت عطا کرنا اور شکر گزار بنانا چاہتا ہے اور "و یرزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلل مبین" (ال عمران: ۱۶۳) سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باطنی طہارت و پاکیزگی فرمادی، "و یعلمکم مالہم تکتونوا تعلمون" (البقرہ: ۱۵۱) فرما کر قرآن خوانی اور قرآن دانی کا ماہر بنایا ہے ان سے حق و جہل دور کر کے کتاب و حکمت کا عالم ہونا

پسند فرماتا ہے جن کے مالی صدقات، زکوٰۃ و خیرات کو قبول اور ظاہر و باطن کو پاک و صاف کر کے ان کے لیے ہر طرح کے سکون کی دعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو یوں دے۔ "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم واللہ سمیع علیم" (التوبہ: ۱۰۳) ترجمہ: اے محبوب ﷺ ان کے مال صدقہ کو قبول فرما کر انہیں ستھرا اور پاکیزہ بناؤ اور ان کے لیے دعائے خیر کرو بیشک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ "یتغون فضلاً من اللہ و رضواناً" (الف: ۲۹) کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضل، رضا کے ہر وقت طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاص و نیت کی قرآن مجید میں یوں گواہی دی "ما یفوق قربت عند اللہ و صلوات الرسول الا انها قربة لهم" (التوبہ: ۹۹) ترجمہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو خرچ کرتے ہیں ان کی نیت اللہ کا قرب اور رسول کریم ﷺ سے دعائیں لینا ہے خبردار (ان کی محبت میں شک نہ کرنا) بیشک اس چیز کے باعث وہ اللہ کا قرب پائیں گے۔

اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اصلاح مشکل ہوتی اور وہ معاذ اللہ حق سے پھرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس تفصیل و اہتمام سے ان کی شان بیان نہ فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ثابت قدمی و باہمی ربط کے متعلق قرآن میں فرماتا ہے "ولیربط علی قلوبکم و یثبت بہ الاقدام" (انفال: ۴) ترجمہ: تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط و مربوط کرے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اور اسی آیت میں فرمایا "اذ یغشیکم النعاس امنة..... ویذهب عنکم رجس الشیطن" (انفال: ۱۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھک جائیں تو اللہ تعالیٰ سکون کے لیے خود نیند طاری کرتا ہے.... اور دور کردی ان سے

شیطانی ناپاکی یعنی (صحابہ میں شیطانی وسوسہ ٹھہر نہیں سکتا)۔ ان آیات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات اور اعمال و کردار اور نیکیوں کی قبولیت کا قطعی و یقینی ہونا بالکل واضح ہے اس مخلص و مقدس جماعت کی نیتوں پر شک کرنے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے نجی و عاقلی کرتوتوں پر ایک طائرانہ نظر ہی ڈال لیں ممکن ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی تھکاوٹ سے بچ جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مجہول تاویلات اور من گھڑت تحقیقات پر فیصلے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "قد افلح من تزکی" (الاعلیٰ: ۱۹) جو خود کو پاک کرے وہ کامیاب ہے۔ تو پھر جن کو اللہ و رسول پاک کریں ان کی طہارت کا کیا حال ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر وقت طہارت و ستھرائی کے طلب گار رہتے ان کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا "فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین" (التوبہ: ۱۰۸) ترجمہ: (محبوب ﷺ آپ کی مسجد میں) وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دعا کریں "ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا" (آل عمران: ۱۹۳) اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما اور برائیاں مٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فوراً قبول کرتے ہوئے فرماتا ہے "فاستجاب لهم ربهم انی لا اضعی عمل عامل الخ" (آل عمران: ۱۹۵) ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ وہ نہیں ضائع کرتا کسی کی محنت کو مردہ یا عورت سب ایک ہیں (اجر دیئے جانے میں) پس جنہوں نے ہجرت کی اور ستائے گئے، جہاد میں (غازی ہوئے) یا شہید ہوئے ضرور ان کے گناہ معاف کروں گا اور ضرور ان کو نہروں والی جنتوں میں داخل کروں گا اور اپنی بارگاہ سے ثواب دوں گا ان کو اچھا ثواب۔

پوری جماعت صحابہ کو "کنتم خیر امۃ" (آل عمران: ۱۱۰) فرما کر تم بہترین گروہ ہو خیر امت

ہونے کی قرآنی سند عطا فرمادی "يسعى نورهم بين ايدهم وبايمانهم" (الحديد: ۱۲) (صحابہ) کے آگے اور دائیں نور دوڑتا ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا صحابہ اندھیر نگری میں نہیں رہتے تھے وہ اللہ کے نور کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے وہ ناحق آپس میں کیسے لڑ سکتے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ خوش نصیب و عالی بخت جماعت ہے جن کے فاتح عالم اور انعام کے کامل ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی "وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم" (سورہ محمد: ۳۵) (صحابہ) تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہ کرے گا۔ سورہ حدید آیت ۴ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "هو معكم اين ما كنتم" جہاں بھی ہو میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں جو ہر وقت اللہ کی معیت و توجہ اور حفاظت و نگرانی میں ہوں وہ شیطانی خواہشات اور دنیوی اغراض و مفادات کی آلائشوں سے کیونکر آلودہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اطمینان قلبی، وسعت ایمانی اور حق یقینی کی گواہی قرآنی الفاظ میں یوں بیان فرمائی "هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم" (الفجر: ۲۶) اللہ وہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کا ایمان و یقین زیادہ ہو اور فرمایا "لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه" (التحریم: ۸) اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا نبی اور آپ کے (صحابہ) کو وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے "ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه" (الانعام: ۵۲) اور دور نہ کرو (صحابہ) کو جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں رضا چاہنے کے لیے "فقل سلام عليكم

كتب ربكم على نفسه الرحمة" (الانعام: ۵۲) پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ سلام ہو (صحابہ) تم پر تمہارے رب نے رحمت کرنا لازم کر لی اپنے ذمہ کرم سے۔ سورہ کہف آیت (۲۸) میں فرمایا "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم" ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے۔ آیت بالا سے معلوم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ مقدس جماعت ہے جن کا حکم قرآن ایمان مضبوط، دل چین سے مسرور افکار و کردار ہر قسم کے نقائص و عیوب سے محفوظ اور اخلاص و للہیت سے معمور ان کو اپنے قریب کرنے خود کو ان کے قریب رکھنے اور دور نہ کرنے اور ہر وقت توجہ خاص میں رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر واضح الفاظ میں دیا بلکہ فرمایا "هكذا ذكر من معي" (سورہ الانبیاء: ۲۴) کہ یہ قرآن تو تمہارے (صحابہ) کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے دشمنان صحابہ کا منہ بند کرتے ہوئے فرمایا "بان الله مولی الذین امنوا: (سورہ محمد: ۱۱) چکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں (صحابہ) کا مولیٰ ہے۔ سورہ انفال آیت ۲۶ میں فرمایا "فاؤکم وایدکم بنصره ورزقکم من السطینت" اللہ نے (صحابہ) کو اپنا ٹھکانہ دیا اپنی مدد سے طاقت ور بنایا اور پاک رزق عطا فرمایا۔ ولکن الله الف بینہم انه عزیز حکیم (الانفال: ۶۳) اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل آپس میں محبت سے ملا دیئے ہیں وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس باہمی محبت میں حکمت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں خواہشات دنیوی کے لیے اختلاف و جھگڑا نہ کریں قرآن مجید نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خواہشات و اشکاف الفاظ میں بیان

فرمائیں کہ وہ عرض کرتے ہیں "غفرانک ربنا و البیک المصیر" (البقرہ: ۲۸۵) ترجمہ: اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور اپنی بارگاہ سے ٹھکانہ دے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہر وقت دعا کریں "ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب" (ال عمران: ۸) ترجمہ: اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھانہ کر بعد ہدایت دینے کے اور عطا فرما اپنی خاص زحمت بیشک تو ہی عطا فرمانے والا ہے صحابہ دنیا کی نہیں بلکہ نیک لوگوں میں شامل ہونے کی طمع رکھتے ہیں قرآن کہتا ہے۔ "ونطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین" (المائدہ: ۸۴) "فانابہم اللہ بما قالوا" (المائدہ: ۸۵) اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے گروہ میں شامل فرمائے پس اللہ نے ان (صحابہ) کی خواہش کو پورا کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیات ۱۱۱، ۱۱۲ ملاحظہ کریں ان کی صرف دعاؤں کو ہی قبول نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا "ان اللہ اشتراى من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنة" ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنین (صحابہ کی جانوں اور مالوں کو خرید یعنی قبول کر کے جنت عطا فرمادی ہے۔ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "یقاتلون فی سبیل اللہ" وہ (صحابہ) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو "فیقتلون و یقتلون" وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ "وعدا علیہ حقافی التورۃ والانجیل والقرآن" اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کیے ہوئے سچے وعدہ کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے (جو کہ صحابہ کے ساتھ کمال محبت و شفقت منہائے کرم و مہربانی اور ان کی شان رفعت نشان کی کھلی دلیل ہے۔ پھر آگے فرمایا "ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ" کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ "فاستبشروا بیعکم الذی با یعتم بہ" لہذا خوشیاں مناؤ

(اے صحابہ) اس سوئے کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا ہے "وذلك هو الفوز العظیم" (۱۱۱) اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس لیے دیں کہ "التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السجدون الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین" (توبہ: ۱۱۲) ترجمہ: کہ ان (صحابہ) سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی خوبیاں بیان کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں رکوع و سجود کرنے والے ہیں بھلائی بتانے والے ہیں برائی سے روکنے والے ہیں اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوش خبریاں ہیں "رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ و لفق حزب اللہ لان حزب اللہ ہم المفلحون" (مجادلہ: ۲۲) اللہ تعالیٰ ان (صحابہ) سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ (صحابہ) اللہ کا گروہ ہیں خبردار بیشک اللہ کا ہی گروہ (صحابہ) فلاح و مراد والے ہیں ایسے عظیم اوصاف و کردار والے ذاتی و فانی، دنیوی و مفاہات کی خاطر آپس میں ہرگز نہیں لڑ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "و نزعنا ما فی صدورہم من غلی" (الاعراف: ۴۳) ہم نے ان کے سینوں سے حسد کینہ نکال دیا ہے۔

صرف کینہ ہی نہیں نکالا بلکہ "فآلف بین قلوبکم فا صبحتہم بنعمتہ اخواناً" (ال عمران: ۱۰۳) پس (صحابہ) کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "لم یمسہم سوء و اتبعوا رضوان اللہ" (ال عمران: ۱۷۳) وہ اللہ تعالیٰ کی

رضاء پر چلنے والے ہیں کسی برائی نے انھیں چھوڑا بھی نہیں برائی انہیں کیوں چھوٹی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و
 يشف صدور قوم مؤمنين (توبہ: ۱۲) و يذهب غيظ قلوبهم (توبہ: ۱۵) کہ اللہ نے ایمان
 والوں (صحابہ) کے سینوں کو شفا بخش کر ان کے دلوں سے تنگی دور کر دی ہے اس لیے "والذين هم
 عن اللغو معرضون" (المؤمنون: ۳) اب وہ لوگ (صحابہ) لغو و بیہودہ باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں
 کرتے کیونکہ قرآن کہتا ہے "ليس له سلطان على الذين امنوا" (النحل: ۹۹) ایمان والوں
 (صحابہ) پر شیطان کو غلبہ نہیں اگر ان سے سہواً کوئی غلطی ہو بھی جائے (معاذ اللہ) تو قرآن نے بتایا
 "كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده
 واصلح فانه غفور رحيم" (الانعام: ۵۴) تمہارے رب نے اپنے کرم سے فرض کر لیا (اے
 صحابہ) تم پر رحمت کرنا جو کوئی بھول کر غلطی کرے پھر توبہ کرے اور خود کو سنوار لے تو بیشک اللہ تعالیٰ
 بخشنے والا مہربان ہے عرش الہی کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں قرآن کہتا ہے
 "الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغفرون
 للذين امنوا ربنا و سعت كل شيء رحمة و علما فاعف عن الذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم
 عذاب الحميم" (المؤمنون: ۷) اللہ کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد تسبیح و حمد کر نیوالے
 ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں (صحابہ) کے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری
 رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے پس تو اپنی راہ پر چلنے اور توبہ کرنے والوں کو بخش دے اور انہیں دوزخ
 کے عذاب سے بچا چنانچہ قرآن کہتا ہے "عفا الله عنها والله غفور رحيم" (مائدہ: ۱۰۱) اللہ تعالیٰ
 نے انہیں (صحابہ کو) معاف فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے صرف معاف ہی نہیں فرمایا

بلکہ فرمایا "واسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة" (لقمان: ۲۰) اللہ تعالیٰ نے (اے صحابہ) تم پر
 اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں انڈیل (بہا) دی ہیں۔ منتہائے کرم یہ ہے کہ "هو الذي يصلي عليكم
 و مَنَّكته" (احزاب: ۴۳) اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے (اے صحابہ) تم پر بھی درود بھیجتے ہیں اور یہ
 اس قابل ہیں چنانچہ قرآن کہتا ہے "و حسن اولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله و كفى بالله
 عليماً" (النساء: ۶۲) اللہ کے علم و فضل سے (صحابہ) بہت اچھے ساتھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ہر وقت
 درود بھیجے وہ باہم عناداً کیسے جنگ کر سکتے ہیں۔ اب ان نصوص قرآنیہ کے مقابل جو لوگ من گھڑت
 روایات یا تاریخی حکایات سے یہ ثابت کرنے پر مصر یعنی (اڑے ہوئے ہیں)۔ کہ صحابہ کرام ائمہ اقدار و
 مفادات کے لئے آپس میں جھگڑتے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ ان کے علم تجہیل اور
 تحقیق تضلیل و تقسین کو کوئی مسلمان کیسے مانے گا ایسی اولوالعزم اور اعلیٰ اور مہتمم بالشان مقدس اور مخلص
 جماعت پر رائے زنی کرنے والوں کے متعلق قرآن کہتا ہے "والذين يؤذون المؤمنين
 و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثمًا مبيناً" (سورہ احزاب: ۵۸) جو لوگ
 ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں (یعنی صحابہ اور صحابیات) کو بلا وجہ ستاتے ہیں وہ کھلا
 بہتان اور گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ اس نورانی جماعت صحابہ کرام پر الزام تراشیاں اور رائے زنی کر
 کے ان کی شان میں تنقیص کرنے والے کیا اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے "انما النجوى من الشيطان ليخزن الذين آمنوا و ليس بضارهم شيئاً" (المجادلہ: ۴۰)
 بے شک شیطان ایمان والوں (صحابہ) کو پریشانی میں ڈالنے کی مشاورت کرتا رہتا ہے مگر ذرا بھر بھی
 ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کی اس نص قطعی سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ صحابہ اور

اہل بیت علیہم السلام کو حرف گیری کر کے اذیت اور تکالیف پہنچانے والے رافضی و خارجی اور ان کے آلہ کار قیامت تک سینے پٹینے، گلے پھاڑتے اور سر پھوڑتے رہیں مگر ناکامی و رسوائی کے سوا انہیں نہ کچھ حاصل ہوا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "و من یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخسرین"۔ (آل عمران: ۸۳) ترجمہ: اسلام کے سوا دین چاہنے والے کو قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھائیں گے۔

اختلافات صحابہ میں اہل سنت کا نظریہ احتیاط: جو لوگ حضرت علی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان ہونے والے اختلاف و معاملات کو آج ڈیڑھ ہزار سال بعد ہوادیکر مسلمانوں میں جدال و فساد اور تفرقہ پیدا کر رہے ہیں وہ مذکورہ بالا آیات قرآنیہ سے عبرت و نصیحت حاصل کریں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدوح جماعت صحابہ کی مخالفت مول نہ لیں۔ قرآن مجید کے حکم "یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطن انه لکم عدو مبین" (البقرہ: ۲۰۸) اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اپنے کھلے دشمن شیطان کی اتباع نہ کرو۔

اسلام صلح کلیت (کھچڑی) کی اجازت نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے "لکم دینکم ولی دین" (کافرون: ۶)

تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین ہے۔ معاشرے کو خواہ مخواہ کے الجھاؤ میں نہ ڈالیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے تمہیں کوئی قاضی

نہیں بنایا نہ وہ تمہاری تحقیق مجہول و فضول کا محتاج ہے بلکہ قرآن مجید میں ہے "وانت خیر الفاتحین"۔ (اعراف: ۸۹) اللہ ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک نے یہ بھی ہمیں بتا دیا "تلك امة قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تستئلون عما کانوا یعملون" (البقرہ: ۱۳۱) کہ وہ جماعت گزر چکی ہے ان کے اعمال ان کے لئے تمہارے تمہارے لئے اور تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔

صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کے خلاف ہرزہ سرائی وہی کر سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہونے کا یقین نہ ہو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے وہابیت اور شیعیت کی افراط و تفریط سے بچا کر نہ صرف سنی مسلمان بلکہ اہلسنت کا رہنما اور پیشوا بنایا پھر عوام اہلسنت نے بھی آپ پر تن من و دھن قربان کر کے تجوریاں بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر یہ کتنی ناشکری، احسان فراموشی اور ستم ظریفی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بلا شرط اور اطاعت بلا فصل کرنے والے جان نثار پروانوں صحابہ اور اہل بیت کے معاملات کو اپنی عقل و علم نارسا کے ترازو میں تولنا شروع کر دیں اور ۹۹ فی صد عوام اہلسنت کے جذبات کا خون کر کے چند خبیث و ذلیل حامیان شیطان پلید کے زیر جیف (مردار مال) کو تحفہ عظیم سمجھنا کوئی دانشمندی نہیں بلکہ دارین کی روسیاهی و تباہی کا باعث ہے اگر تمہارا کوئی شاگرد اور ارادت مند ذرا سی چشم پوشی کر بیٹھے تو تم رات دن اسے احسان فراموشی اور ناشکری کے طعنے دیتے ہوئے نہیں تھکتے تمہارا احترام تو دینی اور مسلکی تعلق کی بنا پر تھا نہ کہ آپ کا کوئی زر خرید غلام ہے۔ اگر تمہاری ناشکری ناقابل معافی جرم ہے تو پھر خود ہی سوچ لیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کی کیا سزا ہوگی۔

خود ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کرو ہم نے کہا تو شکایت ہوگی

مام طحاوی فرماتے ہیں صحابہ کی محبت دین و ایمان کا حصہ اور حسن عقیدت کی آئینہ دار ہے اور بغض و عداوت رکھنا نفاق و گناہ اور کفر کی علامت ہے (الاسالیب البدیعیہ) مذکورہ بالا قرآنی آیات پر غور کے بعد صحابہ کرام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی مان کر ان پر طعن و تشنیع کے حیلے سوچنے والے اپنے ایمان کے متعلق خود ہی فیصلہ کریں۔

علامہ نبہانی فرماتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو اختلاف و ٹکراؤ نظر آئے اس سے بچنے کی کوشش کر۔ کہ ان پر حسن ظن رکھنا واجب ہے ان کی سیرت حمیدہ و محمودہ اور فضائل کا چرچہ کر۔ جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خوبیاں بیان کیں وہ نفاق سے بچا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے صحابہ سے افضل ہیں ان کے مرتبے کو کوئی کمالات علمی اور عملی والا خواہ کتنا ہی فائق ہو نہیں پہنچ سکتا ان کے ہدایت کے بلند جنڈوں سے راستہ تلاش کر۔ گمراہ شیعہ اور بدعتی لوگوں سے تعلق قطع کر۔ مستند آئمہ کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں ان پر بحث نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بدو (دیہاتی) بھی ایک لمحہ بحالت ایمان صحبت زیارت کر لیتا تو حکمت و دانائی کی باتیں کرنے لگتا (مخلصاً جواہر البحار)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ پر طعن سے اپنی زبان روکوان کا ذکر صرف بھلائی و خیر سے کرو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستاروں کی مانند ہیں

بعض بعض سے قوی ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے نور ہے جس نے ان کے اختلاف میں سے بھی کسی چیز پر عمل کیا تو وہ بھی میرے نزدیک ہدایت پر ہے اس سے ثابت ہوا کہ تمام صحابہ اختلافی معاملات میں بھی ہدایت پر تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیہ کریمہ رضی اللہ عنہم و رضوا عندہ (البینہ آیت ۸) کے الفاظ میں اپنی رضا کا قطعی سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اس لئے ان کی شان کے خلاف بے سرو پا تاریخی روایتوں اور من گھڑت حکایتوں کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں،

شیعہ فرقہ ۳۷ ہجری کو ظاہر ہوا جو چند ایک کے سوا تمام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کا لیڈر عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوا اس نے بڑی مکاری و فریب سے محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آڑ میں سب سے پہلے ملت اسلامیہ کی اجتماعیت و اتحاد کو پارہ پارہ کیا حتیٰ کہ خود شیعہ فرقہ بھی اس کی چیرہ دستیوں سے نہ بچا اور شیعہ بھی ۲۴ فرقوں میں تقسیم ہو گئے جو قرآن پاک میں کمی و بیشی کے الزامات صحابہ پر لگاتے ہیں اور احادیث پر بھی اعتماد نہیں کرتے مخلصاً (صواعق محرقة) حالانکہ وحی جلی و خفی کے نقل کرنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہی پاک افراد متعین و مخصوص تھے۔ ثبوت احکام قرآن و سنت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتماد از حد ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت تمام صحابہ کے متعلق عادل و امین ہونے اور حرکات قبیحہ و خصائل حسیہ و رذیلہ اور خطائے شرعیہ سے محفوظ و مامون ہونے کا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اعزاز صحابیت کی برکت سے شرف علم و تزکیہ باطن بھی حاصل ہو گیا لہذا ان کو عادل نہ ماننے سے قرآن و سنت کی حقانیت و صحت پر شک لازم آتا ہے اور قرآن و سنت کی حقانیت پر شک کرنے سے فسق و گمراہی اور پھر نوبت

کفر تک پہنچ جاتی ہے جو کہ دارین میں نقصان و خسران کا باعث ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور دارین کے عذاب سے بچائے صحابہ کرام کی مکرم و معظم جماعت کی صرف ایک صحابیت کی صفت ہی اتنی بڑی شان والی ہے کہ کوئی اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے (خصائص کبریٰ) یعنی صحابہ کے بغیر شریعت اسلامی بے مزہ ہو جائے گی۔

اہل تصوف نے تو ولی کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ ولی وہ ہے جس سے کوئی ناشائستہ حرکات سرزد نہ ہوں (کتاب: ہمدان کے مشائخ نقشبند صفحہ ۱۴۴) تو پھر قرآن مجید کے حکم "ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة" (البقرہ: ۱۵۱) کہ میرے محبوب ﷺ تم کو سترہا کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس لاریب کلام کی گواہی کے بعد کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو صحابی رسول ﷺ بھی مانے اور پھر اس میں نہ صرف صفات مذمومہ کا قائل ہو بلکہ اس کی صحابیت پر طعن بھی کرے یہ اہلسنت کا عقیدہ نہیں کہ خود اچھے عمل کر کے ولی بننے والا تو برے خصائل و عادات اور حرص دنیا سے پاک ہو جائے اور پھر اس ولی کی نگاہ کی تاثیر کا یہ عالم ہو کہ وہ چوروں کو ہوس و حرص دنیا کی آلائیشوں سے ایک ہی نگاہ سے پاک کر کے قطب بنا دے اور بارگاہ نبوت و رسالت میں تربیت پانے والا (صحابی) بغضی، حاسدی، لالچی و کینہ پرور اور متعصب ہی رہے العیاذ باللہ جبکہ نبی کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی آدمی ولی تو درکنار مسلمان بھی نہیں بن سکتا۔

اولیاء صیقل گراں روم داں

نے چوں نقاشانِ چین لعبت گراں

ترجمہ: اولیائے کرام چین کے نقاشوں اور روم کے صیقل گر (چکانے) والوں کی طرح ہیں تو پھر سید عالم ﷺ کی صیقل گری اور نقاشی کا کیا عالم ہوگا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ ﷺ کی نگاہ کرم سے کیوں کر صیقل نہیں ہوئے ہوں گے۔

وہابیوں، شیعوں کے نفس و خبث سے لتھڑی ایسی خرافات و ضلالت کے متعفن ملغوبے اہل سنت ہرگز نہیں چاہتے جو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی شان و عظمت کو اپنی ناقص عقل کے ترازو میں تولنے کے مکروہ دھندہ سے نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے دین و دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد و بے حساب رحمتیں نازل فرمائے آئمہ و مشائخ اہل سنت پر جنہوں نے بڑی جانفشانی سے مذہب اہل سنت کو افراط و تفریط کی لعنتوں سے محفوظ رکھا اور صراط مستقیم کو ہر دور میں خوب نکھارا۔

تمام صحابہ عادل، اہل خیر و صلاح اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے مقدمات ہیں۔ نیر اس شریف میں ہے فان المذہب عندنا ان اصحاب الجمل و الصفین عدول لانہم مجتہدون ترجمہ: بیشک اہل سنت و جماعت کے نزدیک (حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے درمیان لڑی جانے والی) جنگ جمل و صفین میں شریک ہونے والے صحابہ کرام مجتہد و عادل تھے۔

مرقات حاشیہ مشکوٰۃ شریف میں ہے واما معاویہ۔۔۔ فہو من العدول الفضلاء الصحابہ ترجمہ: اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل اور اہل فضل صحابہ میں سے ہیں امام نووی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کمال عدالت، قبول شہادت اور تسلیم روایت پر اجماع و اتفاق ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جو کسی صحابی کے ساتھ بغض رکھے وہ بد مذہب ہے (مکتوبات شریف جلد اول) ہمیں تمام صحابہ کے ساتھ محبت و تعظیم کا حکم ہے حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ کرنے والے خطا اجتہادی پر تھے نہ کہ خطا عنادی پر، بلکہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ اور عمرو بن عاص کی غلطیاں اور لغزشیں حضرت اویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صحیح آرا سے افضل تھیں (مکتوبات شریف)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلویؒ نے شامان امیر معاویہؓ کے جواب میں پانچ کتب تحریر کیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔

(۱) البشری العاجلة من تحف آجلة (۲) عرش الاعزاز والاکرام لاؤل ملوک الاسلام
(۳) زب الالهواء الواهية فی باب الامیر معاویہ (۴) اعلام الصحابة الموافقين
لامیر المعاویة و ام المثنو منین (۵) الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ - امام جلال
الدین سیوطی فرماتے ہیں خلفاء اربعہ اور امام حسنؓ کی صلح کے بعد امیر معاویہؓ کی خلافت پر اجماع
ہوا (تاریخ الخلفاء)

صحابہ کرامؓ کے اجتہادی اختلافات ان کی صاف دلی پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے (شیخ شہاب
الدین بحوالہ الاسالیب البدیعیہ از علامہ نبہانی)

جبرائیل علیہ السلام کے مشورہ سے نبی کریم ﷺ نے حضرت امیر معاویہؓ کو کتاب وحی کا اعزاز بخشا
اس لیے کہ وہ امین ہیں آپ کی بہن ام حبیبہؓ حضور ﷺ کی بیوی ہیں اس لحاظ سے حضرت امیر
معاویہؓ نے نبی کریم ﷺ کے سالے ہیں تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں ان کے والد حضرت ابو

سفیان نبی کریم ﷺ کے سر اور ان کی والدہ ہندہ آپ ﷺ کی ساس ہوئیں بغض معاویہ میں
ہلکاں رہنے والے ان کے والد، والدہ پر بہتان طرازی کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ وہ نبی کریم
ﷺ کے سر اور ساس کی توہین کر رہے ہیں حالانکہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا
کہ جس خاندان میں میں نے شادی کی یا جس کسی نے میرے خاندان میں شادی کی ان پر دوزخ کی
آگ حرام ہے حضرت امیر معاویہؓ سے ایک سوتر لیٹھا احادیث مروی ہیں فتح مکہ سے قبل اسلام
لائے جنگ حنین، یمامہ، قسطنطنیہ میں شریک ہوئے جس میں شریک ہونے والوں کو نبی کریم ﷺ
نے جنت کی بشارت دی تھی آپ کے والد ابوسفیان اور والدہ ہندہ اور دیگر تمام اہلخانہ فتح مکہ کے دن
اسلام لائے نبی کریم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی اے اللہ امیر معاویہؓ کو
ہادی اور مہدی بنا اور عذاب سے بچا ایک دفعہ حضرت امیر معاویہؓ نبی کریم ﷺ کے پیچھے ایک ہی
سواری پر سوار تھے تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی اے اللہ امیر معاویہؓ کے پیٹ کو علم اور حلم (نرمی)
سے بھر دے امام سیوطی فرماتے ہیں ابو بکر بن عاصم نے حضرت امیر معاویہؓ کے حلم (بروباری و
نرمی) پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے (تاریخ الخلفاء)

ایک مرتبہ ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ حضرت امیر معاویہؓ کو چوم رہی تھیں نبی کریم ﷺ نے
ام حبیبہ سے پوچھا کیا تو اس سے محبت کرتی ہے انہوں نے عرض کیا کہ میرا بھائی ہے میں اس سے
محبت کیوں نہ کروں نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے
ہیں۔

حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک کی دو انگلیاں ملا کر فرمایا میں اور امیر معاویہؓ دو انگلیوں کی

طرح جنت کے دروازے پر ملیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات تھے آپ نے بوقت وصال فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور قمیص مبارک سے کفن دینا اور ناخن و بال مبارک میری آنکھوں پر رکھ کر دفن کر دینا (سوانح کربلا و سیرت حلبیہ)

محدث اعظم پاکستان کا نظریہ: اہلسنت کے نزدیک تمام صحابہ عادل

ہیں واقعہ جمل و صفین میں تین جماعتیں ہو گئی تھیں تینوں مستحق اجر و ثواب ہیں جو کہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس خطا اجتہادی میں اجر و نیکی کے مستحق نہیں وہ غلطی پر ہے قرآن و حدیث اور عبارات ائمہ و سلف و خلف رضی اللہ عنہم میں صحابہ کرام کے جو آداب تحریر ہوئے ان آداب کے حقدار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان کے آداب و احترام کو پورے طور پر ملحوظ رکھیں ان کی ذات ستودہ صفات کے خلاف زبان طعن دراز نہ کریں کیونکہ وصف صحابیت کا شرف ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان کو ہر فعل شنیع اور امر قبیح سے پاک سمجھیں اسلاف میں سے کسی نے ان کی عدالت، کمالات اور صحابیت کا انکار نہیں کیا محدثین نے ان سے روایات لی ہیں (کتاب شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ از افادات محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب علیہ الرحمۃ)

سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے والوں میں سے ایک مقتول کو کہا کہ یہ مسلمان تھا آج کافر ہو کر مرا پڑا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کل بھی مومن تھا آج بھی مومن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین میں مارے گئے افراد کے متعلق شرعی حکم پوچھا گیا تو آپ نے بلا جھجک فرمایا وہ سب مومن ہیں (ابن عساکر، تہذیب تاریخ دمشق الکبیر)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ میں قتل ہونے والے (دونوں طرف کے لوگ) جنتی ہیں (مصنف ابن ابی شیبہ)

مولانا شفیع اوکاڑوی کا نظریہ: عقیدہ تاریخ کے تابع نہیں بلکہ تاریخ کو

عقیدہ کے تابع رکھنا ہوگا اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ تاریخی روایات و نظریہ جو قرآن و حدیث اور عقیدہ مسلمہ کے خلاف ہو باطل و مردود، سازشی ریسرچ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے ان کی شان میں کوئی بدگمانی نہیں کی جاسکتی کیونکہ ان کی صحابیت مسلمہ ہے جو بدگمانی سے مانع ہے (مولانا محمد شفیع اوکاڑوی امام پاک اور یزید پلیدی) جو چیز بھی قرآن و سنت کے خلاف اور ناقابل تاویل ہو وہ جھوٹ اور ضعیف الاعتقاد شاطروں کی آمیزش ہے جو اپنے مکر و فریب سے امت کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کر رہے ہیں (سید محمد علوی حسنی مالکی کی)

آج کے گمراہ و بے دین، مریض القلب، منافق شعار و رافضی کی مخترع و مفروضہ، مردودہ روایات اور بیہودہ حکایات تاریخ کی خرافات سے صحابہ کے اختلافات جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کے معاملات ہیں کا قرآن و سنت اجماع امت سے مقابلہ چاہتے ہیں حالانکہ ایسی مہملات روایات تو کسی ادنیٰ مسلمان کو گناہ گار ٹھہرانے کے لیے بھی مسموع (سننے کے قابل) نہیں ہو سکتیں چہ جائیکہ محبوبانِ خدا صحابہ و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخی روایات کی آڑ میں طعن کیا جائے جن کی مدحت نور سے معمور اور بلندیِ عظمت و شان کے طور ماورائے بیت المعمور کی تفصیل و اجمال کا ذکر قرآن و حدیث میں بھر پور ہے کے خلاف ایسی روایات جن کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی لائق اعتبار نہیں

اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتب تاریخ میں بہت اکاذیب (جھوٹی) اباطیل (بے سرو پا) روایات بھری ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں (صحابہ) کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلاً للذین امنوا ربنا انک رؤوف رحیم (الحشر: ۱۰) کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو آپس کے کینہ سے بچا پیشک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا و نزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار (اعراف: ۳۴) ہم نے ان (صحابہ) کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے ان کے لیے جنت میں نہریں جاری ہوگی۔

ان آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ صحابہ کرام کے سینے ہر قسم کے عیب و کینہ سے پاک تھے

صحابی کی عیب جوئی پر وعید: حضرت امام مالک فرماتے ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا عیب بیان کرے اس کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں (شفا شریف) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا تاکہ وہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو گالی نہ دے سکے (شفا شریف) امام ابن حجر کی فرماتے ہیں قرآن و سنت کے صریح دلائل علمائے مسلمین کے اجماع، عقلاء کی تائید اور محقق منصفین (انصاف کرنے والوں) نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ تمام صحابہ عادل و امین تھے سب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کنتم خیر امۃ اخرجت للناس (ال عمران: ۱۱۰) (اے صحابہ) تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیے گئے

ہو دوسری آیت میں فرمایا "و کذالک جعلناکم امۃ و سطات لکنوا شہداء علی الناس" (البقرہ: ۱۴۳) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو اعلیٰ درجہ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اسی مفہوم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے "خیر القرون فی قرنہ" یعنی بہتر صدی میری ہے جو کچھ صحابہ کے مناقب میں بیان کیا گیا ہے اس کے مقابل موضوع (جھوٹی) کمزور (ضعیف) شبہات کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے قرآن و سنت میں جو کچھ ہے سب برحق ہے اور وہ سب کچھ ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے پہنچا ہے جو آدمی ان کو برا کہتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل قرار دیتا ہے پس ایسے آدمی کو برا کہنا اور اس پر ضلالت و زندقیت (گمراہی) کا حکم لگانا زیادہ مناسب اور صحیح ہے (صواعق محرقتہ) حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی زمین کے جس خطے پر فوت (دفن) ہوا قیامت کے دن وہ اس خطے والوں کی شفاعت کریگا جس کو ان کی شفاعت چاہیے اسے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں طبع آزمائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کے معاملات کا قاضی نہیں بنایا نہ ہی وہ ہمارے فیصلے کے بعد معاذ اللہ ان کو جزا اور سزا دیگا۔

آج چودہ سو سال بعد ان کے اختلافات اُچھالنے سے ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ تو یقینی ہے مگر قرآن کے فیصلہ و کلاً وعد اللہ الحسنی (الحدید: ۱۰) (سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے بھائی کا وعدہ فرمایا ہے) ہرگز تبدیل نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امان لاصحابی ترجمہ: کہ میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں (شفا شریف) قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ دوسری حدیث میں ہے من سب اصحابی فاجلدوہ جو میرے اصحاب کو گالی دے اس کو کوڑے مارو۔ ابن

شعبان کہتے ہیں جو کسی صحابی کی والدہ کو گالی دے اگر چہ وہ کافر ہو ایسے آدمی کو دو حدیں لگائی جائیں (شفا شریف) نبی کریم ﷺ کے اہل بیت اور صحابہ کرام کو گالی دینا اور ان کا عیب نکالنا حرام ہے ایسا کرنے والا ملعون ہے (شفا شریف)

قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے بارہ واسطوں سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میرے اصحاب کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا جو ان کو دوست سمجھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے دوست سمجھے گا جو ان کو دشمن سمجھے گا وہ میری دشمنی کی وجہ سے دشمن سمجھے گا جس کسی نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اسے مجھے تکلیف دی جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی جس نے اللہ کو تکلیف دی عنقریب اللہ اس کو پکڑے گا (شفا شریف)

حضور ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا جس نے گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اللہ اس کی بندگی اور فرض کو قبول نہیں کریگا (شفا شریف)

بیشک آخر زمانہ میں ایک قوم میرے صحابہ کو گالیاں دے گی تم ان کی جنازہ نہ پڑھنا ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا ان کے پاس نہ بیٹھنا بیمار ہوں تو بیمار پرسی نہ کرنا۔ امام مالک فرماتے ہیں جس نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم یا کسی صحابی کو گالی دی یا گمراہ اور کافر کہا اسے قتل کیا جائے گا (شفا شریف)

ایک سید طالب علم نے کہا مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت و بدظنی تھی ایک دفعہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے پڑھا کہ حضرت امام مالک جو حد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دینے والے پر لگاتے وہی حد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو

گالیاں دینے والے پر لگاتے تو میں مکتوبات شریف کو زمین پر پھینک کر سو گیا خواب میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ غصہ کی حالت میں آئے مجھے دونوں کانوں سے پکڑ کر فرمایا تو ہماری تحریر پر اعتراض کرتا، زمین پر پھینکتا ہے اور اسے معتبر نہیں سمجھتا آجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلوں جن کی خاطر تو ان کے بھائیوں کو برا کہتا ہے کچھ دیر کے بعد فرمایا یہ بزرگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں سنو کیا فرماتے ہیں میں نے قریب ہو کے سلام کیا تو آپ نے فرمایا خبردار نبی کریم ﷺ کے اصحاب کے بارے میں کوئی کدورت دل میں نہ رکھو اور ان کی ملامت زبان پر نہ لاؤ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی کن نیتوں سے ہمارے ساتھ جھگڑے تھے اور شیخ مجدد کی تحریر سے ہرگز نہ پھرنا اس نصیحت کے باوجود میرے دل سے نفرت نہ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ محسوس فرما کر ناراض ہوئے اور مجدد صاحب کو حکم دیا کہ اس کا دل ابھی صاف نہیں ہوا اس کو ایک تھپڑ رسید کرو چنانچہ حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمۃ نے میری گردن پر ایک تھپڑ مارا تو میرا دل کدورت سے صاف ہو گیا (کتاب ہمدان کے مشائخ نقشبند صفحہ ۱۶۵، ۱۶۶)

وہ حضرات غور فرمائیں جن کا شجرہ طریقت حضرت مجدد الف ثانی کے اسم گرامی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا انصاف والوں کے لیے اس مذکورہ بالا واقعہ میں بڑی عبرت و نصیحت ہے کتاب مذکورہ ہمدان کے مشائخ کے صفحہ ۱۲۳ پر ہے کہ اولیاء و صوفیاء کرام فقط اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور نفرت و عداوت رکھتے ہیں صفحہ ۱۲۴ پر ہے تزکیہ نفس، صفائے قلب اور کمال اطاعت الہی کی وجہ سے اولیاء کرام کا ظاہر و باطن تقویٰ و طہارت سے آراستہ ہوتا ہے جو اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں عمدہ اخلاق کی وجہ سے رزائل اخلاق سے منزہ و پاک ہوتے ہیں ان کی نظر میں کسی شیء کی قدر و

قیمت باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں جس رنگ کے سامنے سب رنگ ماند ہیں (ہمدان کے مشائخ صفحہ ۱۲۴) اور صفحہ ۱۲۷ پر ہے کہ اولیاء کرام کی زندگیاں عاجزی، نرم روی اور تواضع سے مزین ہوتی ہیں۔

قارئین ذرا غور فرمائیں کہ جب خود اطاعت الہی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والے ولی کے تزکیہ نفس، صفائے قلب، حسن اخلاق اور دنیا سے بے رغبتی کا یہ حال ہے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اسکے محبوب ﷺ کی خاص توجہ سے تربیت پائی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے چلتے پھرتے قرآن جناب محمد ﷺ کے جلوؤں کا خود اپنی آنکھوں سے بلا حجاب نظارہ کیا اور ان کے آگے سر نیاز جھکایا آپ ﷺ کے ایک اشارہ ابرو پر تن من دھن سب کچھ بلا توقف قربان کر کے خود کو اولوی و مصطفوی رنگ سے رنگیں کر لیا ان کے دلوں میں آلائش و نیوی حسد و کینہ اور وہ بھی آپس میں کیونکر متصور ہو سکتا ہے جبکہ قرآن پاک کی نصوص قطعاً ان کے متعلق واضح طور پر موجود ہیں رحماء بینہم (وہ آپس میں مہربان تھے) و نزعنا ما فی صدور ہم من غل الخ (الاعراف ۴۳) ہم نے ان کے سینوں سے کینہ نکال دیا ہے اور بھائی بھائی بنا دیا ہے۔

آفتاب گولڑہ کا ارشاد: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حصول صحبت نبوت اور آپ ﷺ کے

قلب اقدس کے عکس سے منور ہونے کے باعث حضور و دوام کی نعمت حاصل تھی حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی کو فضائل صحابہ و اہل بیت میں تشدد، تعصب ناگوار رہا خصوصاً کسی کی ایسی فضیلت جس سے کسی دوسرے کی توہین ہو آپ کو سخت ناپسند تھی (مہر منیر)

تمام صحابہ معیار حق ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے ایک صحابی کا انکار سارے صحابہ کا انکار ہے (کتاب امیر معاویہ رضی اللہ عنہما از مقبول سرور صاحب) توحید کی مجسم دلیل مصطفیٰ کریم ﷺ ہیں اور آپ ﷺ کی رسالت کی مجسم دلیل یاران مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ نفس صحابیت میں تمام صحابہ برابر ہیں۔ تمام اہلسنت اس بات پر متفق ہیں کہ اختلافات صحابہ سے باز اور برائی بیان کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے اختلافات و محاربات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے اور ان کی خوبیاں و فضائل کو ظاہر کیا جائے۔ (غنیۃ الطالبین از غوث پاک رضی اللہ عنہ)

حضور ﷺ نے فرمایا معاویہ بن سفیان میرے صاحب اسرار ہیں (تظہیر الجنان) ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا پر قلم لگائے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے پوچھا یہ قلم کیسا ہے عرض کیا اللہ و رسول کے لئے تیار کیا ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نبی کی طرف سے جزائے خیر دے بخدا میں نے تم سے وحی کے سوا کچھ نہیں لکھوایا اور میں وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا (البدایہ والنہایہ) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما شان علی رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے شعرا کو ہر شعر پر ہزاروں دینار انعام دیتے تھے۔ (نقائص الفنون) کیونکہ ان کے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف کوئی کینہ و نفرت نہیں تھی۔ حضرت قابس بن ربیعہ جو شکل و صورت میں نبی کریم ﷺ سے بہت مشابہت رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے کھڑے ہو کر استقبال کیا آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور بڑی زرخیز جاگیر عطیہ دی (ضیاء النبی جلد ۵)

دشمن علی کی سرزنش: جنگ صفین میں قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امداد کی پیشکش کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ملعون! اگر تو باز نہ آیا تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل کر تجھے تمام شہروں سے نکال دوں گا اور زمین تجھ پر تنگ کر دیں گے (البدایہ) سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب میرے صحابہ کے اختلافات کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو خواہ ان سے قتل ہی کیوں نہ سرزد ہو جائے (تاریخ الخلفاء) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور فقیہ ہیں ان کی جلالت شان کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما نے ان کے دست حق پرست پر بیعت فرما کر حاکم اعلیٰ بنا دیا اس کے بعد بھی جو شخص ان کی خلافت کو نہ مانے وہ حسین کریمین رضی اللہ عنہما کا کھلا دشمن اور باغی قرار پائے گا (فتاویٰ فیض الرسول) امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی دستبرداری کے بعد کوئی خلافت کا دعویٰ نہیں تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر امت کا اجماع ہوا اس لئے سن ۴۱ ہجری کا نام سال جماعت (اتحاد کا سال) رکھا گیا (تاریخ الخلفاء)

حضرت مجدد الف ثانی کا ارشاد: جو شخص بعض صحابہ میں عیب نکالتا

ہے وہ سب کی متابعت سے محروم ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی نقل و روایت اور واسطہ سے پہنچے ہیں جب صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو نقل و روایت بھی

مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل و روایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام صحابہ عدالت و صدق اور تبلیغ دین میں برابر ہیں پس کسی ایک صحابی میں طعن و عیب ماننا دین اسلام میں طعن و عیب تسلیم کرنے کو مستلزم ہے (مکتوبات شریف)

ضابطے کی بات یہ ہے کہ بعض کا انکار کل کا انکار ہے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب صحابہ میں مشترک ہے جو کہ دیگر فضائل و کمالات سے فائق و بلند ہے کیونکہ ان کا ایمان صحبت و نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے ایمان کا یہ رتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کسی کو بھی نصیب نہیں اور اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہوتا ہے (مکتوبات شریف) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل، نجباء و فضلاء صحابہ میں سے ہیں (حضرت علی رضی اللہ عنہ سے) باہمی محاربات کی وجہ سے کوئی صحابی بھی عدالت و نیکی سے خارج نہیں ہوا، ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور تمام اوصاف رزیلہ کی نفی کرنے کا حکم دیا گیا صحابہ کو برا کہنا حرام اور بہت بڑی بے حیائی ہے اسے کوڑے مارے جائیں بعض مالکیہ کہتے ہیں اسے قتل کیا جائے (امام نووی شرح مسلم شریف جلد ۲) شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی تعظیم و تکریم ہم پر واجب ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بد عقیدگی رکھنا، طعن کرنا یا برا کہنا سب حرام ہے (العقیدہ الحسنہ) بروایت متعددہ یہ امر ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

کا سب وحی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کاتب بناتے جو ذی عدالت اور امانت دار ہو (ازالۃ الخفا)

حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں علم و تقویٰ، زہد و امانت، حلم و صداقت اور شانِ اجتہاد میں عام صحابہ سے بہت ہی بلند و بالا حیثیت کے مالک تھے کتب صحاح و سیر میں دونوں کی فضیلت و مناقب پر الگ الگ باب باندھے گئے ہیں خلفاء ثلاثہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ

الکریم افضل ہیں آپ کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگوں کا تذکرہ ہم سیدہ کاروں کو نہیں کرنا چاہیے وہ مجتہد تھے لہذا ہر دو حضرات مصیب و مثناب ہیں (فتاویٰ یورپ)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے صحابہ کے جنگ و جدال کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی **تلك امة قد خلت لهما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسفلون** عما كانوا يعملون (البقرہ ۱۴۱) وہ جماعت گزر چکی ان کے کام ان کے لئے تمہارے کام تمہارے لئے تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے (النار الحامیہ لمن ذم المعاویہ) قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں تمام صحابہ عادل اور منصف (انصاف کرنے والے تھے اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی وہ خاطی و عاصی نہ رہے بلکہ تابع و مغفور تھے نصوص قرآنی اور متواتر احادیث ان کی عظمت کی گواہ ہیں (النار الحامیہ لمن ذم المعاویہ)

حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ ملوک اسلام تھے مگر خلافت راشدہ کے تابع رہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے ہر صحابی کا تذکرہ نہایت ادب و احترام سے کیا جائے خواہ ان کا کوئی کام پسندیدہ نہ بھی ہو ان کے اختلافات اجتہادی تھے (النار الحامیہ لمن ذم المعاویہ)

جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام

کافر شان صحابہ پر جلتے ہیں: مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام صحابہ کو عادل، نیک، اللہ کی رضا چاہنے والے، خیر الامم، اللہ ان سے وہ اللہ سے راضی ہیں اس اُلوہی شہادت

وحقیقت میں جو شک کرتا ہے وہ بالا جماع کافر ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت لیغیظ بہم الکفار سے ثابت ہوا جسے صحابہ غصہ دلانیں (یعنی جو صحابہ کی شان دیکھ کر جلنے لگے) وہ کافر ہے۔ اس آیت سے روافض کے کفر کا مفہوم اخذ ہوتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے بھی روافض کے کفر میں آپ سے اتفاق کیا ہے اور آئمہ کی ایک جماعت بھی اس معاملہ میں آپ سے متفق ہے (صواعق محرقة) حضرت عبداللہ ابن عباس رحمہما اللہ حضرت علی رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ کے خلاف لڑے۔ مگر امیر معاویہ رحمہ اللہ کی بہت تعریف کرتے اور ان کو قہمیہ اور مجتہد کہتے حضرت سعد بن ابی وقاص کی حضرت خالد بن ولید سے شکر رنجی ہوئی تو ایک آدمی نے حضرت سعد کے سامنے حضرت خالد بن ولید کی برائی کی کوشش کی تو حضرت سعد نے فرمایا تو چپ رہ ہماری ناراضگی کا اثر دلوں تک نہیں پہنچتا۔ (تطہیر الجمان)

علامہ یوسف نبہانی دیگر آیات مقدسہ کے ساتھ اس آیت کو نقل کر کے فرماتے ہیں واضح رہے کہ خلفائے راشدین کے علاوہ طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ، عمر و بن عاص، اور حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ ہر بھی بلاشبہ ان اکثر آیات کے مفہوم و مصداق میں شامل ہیں صرف سابقین اولین کے ساتھ خاص نہیں (الاسالیب البدیعیہ فی فضلاء الصحابہ واقناع الشیعہ) علامہ نبہانی علامہ تفتازانی سے نقل کرتے ہیں صحابہ کے اختلافات تاویل پر مبنی ہیں ان کے باعث کوئی عدالت سے خارج نہیں کیونکہ وہ مجتہد تھے (الشرف الموبد) مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں جس کا ایمان ان کی طرح نہیں وہ بے ایمان ہے (نور العرفان) صحابیت اور فسق جمع نہیں ہو سکتے سارے صحابہ فسق سے مامون و محفوظ ہیں قرآن نے ان کے عادل متقی، مغفور اور جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔

تاریخ مصنف کی آئینہ دار ہوتی ہے ۹۵ فی صد واقعات غلط اور بکواس ہوتے ہیں منورخ، محدث اور راوی کی غلطی مان لینا آسان ہے مگر صحابی کا فسق ماننا مشکل ہے کہ اسے فاسق ماننے سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے (امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک نظر) صحابی کا فسق و فجور سے بری اور عدالت سے موصوف ہونا فروعی نہیں اصولی مسئلہ ہے اگر کسی صحابی مثلاً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فاسق کہیں تو کلمہ عدول کا عقیدہ سلامت نہیں رہے گا صحیح یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہلسنت کے کسی فرد نے آج تک فسق کا الزام نہیں لگایا (فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ از محمد صدیق نقشبندی)

حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا ارشاد:

کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی دست برداری کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت و خلافت صحیح و واجب ہو گئی۔ (غنیۃ الطالبین)

باز اہلب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی

دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا

حق سے بد ہو کے زمانہ کا بھلا بنتا ہے

ارے میں خوب سمجھتا ہوں معما تیرا

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں میں اور ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ لڑے ان لوگوں کی طرح ہوں گے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقبلین ۰ (الحجرات: ۴۷) اور ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا وہ تختوں پر آنے سے سامنے ہونگے۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں خلفاء راشدین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تمہیں علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تمہارے درمیان چلپقش ہوگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور عقوبت (معافی) انہوں نے عرض کیا ہم قضاء الہی پر راضی ہیں اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ولو شاء اللہ لمقتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد (البقرہ: ۲۵۳) اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہے کرے۔

(الناہیہ عن طعن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ)

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کی صحت پر اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی صحت پر اجماع ہے (تطہیر الجنان)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مؤلفۃ القلوب سے نہیں: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ نسبی لحاظ سے والد اور والدہ دونوں جانب سے پانچویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ کے والد، والدہ بھائی فتح مکہ شریف کے وقت ایمان لائے تھے یہ ہے کہ خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ شریف سے قبل مکہ ہجری صلح حدیبیہ کے وقت ایمان لائے اور آپ مؤلفۃ القلوب سے نہیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق اپنے اعتقاد میں ادنیٰ نقص کا شائبہ رکھنے سے بھی اجتناب کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں (صواعق محرقة) (تطہیر الجنان، مدارج النبوت، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک نظر) کیونکہ ان کے مؤلفۃ القلوب ہونے پر طنز و طعن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز و طعن کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر

ظن کرنے والا اپنے ایمان کے متعلق خود ہی فیصلہ کر لے۔

حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین اور فقہیہ فرمایا ہے اور انکی روایات کو لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن عاص، وحشی وغیرہ رضی اللہ عنہم یا کسی صحابی کی شان میں تبرا اور بے ادبی کا قائل رافضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ خطائے اجتہادی تھی جو گناہ نہیں ان کو ظالم، باغی، سرکش یا کوئی برا کلمہ کہنا اور صحابہ کے آپس کے واقعات میں لغزشات پر گرفت حرام سخت حرام ہے (قانون شریعت از مولانا شمس الدین صاحب جو پوری) امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ے ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم ﷺ سے ہوا گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ "عسنى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم (الممتحنہ: ۷) ترجمہ: کہ جن دلوں میں نبی الانبیاء اور ان کے حلقہ بگوشوں کے لیے بغض و عناد کے انگارے دکھ رہے تھے انھیں محبت و اخوت کے گلہائے رنگین میں بدلنے کا آغاز حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے کر دیا اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارے مکہ میں کا فر رشتہ داروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری مودت و محبت ڈال کر جلد ہی مسلمان بنا دے گا مفسرین فرماتے ہیں کہ چنانچہ فتح مکہ کو یہ وعدہ الہیہ پورا ہوا سارے اہل مکہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابوسفیان، والدہ ہندہ دیگر تمام اہل خانہ اسلام لے آئے اب ذرا آیہ کریمہ قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المثودة في القربى (شوری: ۲۳) اور دوسری آیت عسنى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم (الممتحنہ: ۷) دونوں آیتوں کے مفہوم کو سامنے رکھ کر غور فرمائیں کہ ایک آیت میں مودت چاہنے کا ذکر ہے دوسری آیت

میں اللہ تعالیٰ کے مودت ڈالنے کا بیان ہے جس سے یہ بات بالکل واضح نص کی دلالت سے ثابت ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین بھائی اور دیگر اہل خانہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور بانی اسلام حضور ﷺ کی صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت بھی ڈالی تھی لہذا چند یزیدی ملعونوں کی وجہ سے پورے قبیلہ بنو امیہ پر طعن و تنقیص سے آیات و احادیث پر طعن و شک لازم آتا ہے جو کہ کفر ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی لغزش معاف: حضرت حذیفہ سے روایت ہے سرکار دو عالم

ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ سے ضرور لغزش ہوگی اللہ تعالیٰ انکی لغزش کو ان کے سابقہ اعمال جو میرے ساتھ کیے ہیں کے سبب بخش دے گا (خصائص کبریٰ) ابن سعد اور ابن عساکر مسلم بن خالد سے روایت کرتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب کا علم، شہروں پر قدرت عطا فرما اور عذاب سے محفوظ رکھ چنانچہ حضور ﷺ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اکتالیس سال منظم حکومت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے معاویہ جو تیری فضیلت میں شک کرے گا جب قیامت کو اٹھے گا تو اس کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا (ابن عساکر) ابن عساکر عروہ بن اویم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم ﷺ سے کہا مجھ سے کشتی کچھ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھ سے کشتی لڑتا ہوں اور اسے کشتی میں بچھاڑ دیا نبی کریم ﷺ نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر جنگ صفین میں میری توجہ اس حدیث کی طرف ہوتی تو میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

سے جنگ نہ کرتا (خصائص کبریٰ)

عبداللہ بن احمد نے الزوائد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ بنو امیہ پر لعنت نہ کرو کیونکہ ان میں ایک امیر ایسا ہے جو مرد صالح ہوگا یعنی عمر بن عبدالعزیز (خصائص کبریٰ) بخاری و مسلم میں حضرت انس اور عمیر بن اسود سے ام حرام کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ کریگا ان کیلئے جنت واجب ہوگی (خصائص کبریٰ) یہ بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں لڑی گئی جس میں شریک تمام افراد حدیث کی رو سے جنتی ہیں تو سپہ سالار (امیر معاویہ رضی اللہ عنہ) بدرجہ اولیٰ جنتی ہوئے قارئین انصاف فرمائیں کہ اب جو آدمی تاریخی حوالوں اور من گھڑت روایتوں سے ان پر جرح و تنقید کرے تو یوں و تنقیص کا دروازہ کھولے اور مسلمانوں میں اضطراب و فساد برپا کرے اس کا قرآن و احادیث پر کتنا ایمان و اعتبار ہے۔

شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں روایات و آثار میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب طاہرہ کو باقی تمام لوگوں کے دلوں سے صاف تر اور لائق تر بنایا اور نبی کریم ﷺ کی محبت و رفاقت کے لیے چن لیا۔۔۔ صحابہ کا نقص و عیب معاذ اللہ نبی کریم ﷺ کی ذات میں نقص و عیب کا موجب بنے گا اور صحابہ میں نفاق لازم آئے گا حالانکہ سورہ توبہ کے نزول کے بعد منافقین و مخلصین کا امتیاز تعین بھی ہو گیا تھا لہذا کسی صحابی کے بارے میں نقص و عیب کا گمان نہیں کیا جاسکتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے صحابہ امت میں سب سے افضل تھے ان میں سب سے بڑھ کر نیک دلی پائی جاتی تھی ان کا علم سب سے گہرا تھا یہ سب سے کم تکلف و تصنع اختیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب ﷺ کی صحبت و رفاقت اور خدمت دین کے لئے

چن لیا ان کے فضل و کمال کو پہچانوں ان کے آثار، طریقوں کی پیروی کرو حتیٰ الوسع ان کے اخلاق و سیرت اور روش اختیار کرو چکی بات ہے کہ یہ لوگ ہدایت مستقیم پر قائم تھے (مشکوٰۃ شریف) اس حدیث سے اندازہ کریں کہ عبداللہ بن مسعود صحابہ کی تعظیم و اطاعت کے کس قدر قائل تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بزرگ اور بلند شان صحابی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے ہر اس چیز پر راضی ہوں جس پر عبداللہ بن مسعود راضی ہے۔ (اشعۃ اللمعات) صحابہ سارے عادل ہیں کوئی فاسق نہیں جس تاریخی واقعہ اور روایت سے ان کا فاسق ہونا ثابت ہو وہ مردود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی، کاتب وحی، مجتہد اور نبی کریم ﷺ کے سالے ہیں جنگ صفین میں ان سے خطا و اجتہادی ہوئی جو کوئی آپ پر طعن کرے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے (رشد الایمان از علامہ عبدالرشید قادری)

جو کسی صحابی پر طعن کرے وہ اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے (احکام شریعت از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور آپ ﷺ کے رشتہ دار، کاتب وحی، عالم و مجتہد، حلم و سخاوت والے ہیں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، تمام محدثین نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایات کو قبول کیا محدثین کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مستند راوی ہیں اور ان پر کوئی جرح نہیں امام عسقلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مناقب و فضائل کا مجموعہ ہیں۔۔۔۔۔ ثواب کے مستحق ہیں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جن کے تقویٰ و امانت پر تمام امت متفق ہے فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی باگ کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے ہزار گنا اچھا ہے کیوں نہ ہو کہ قرآن پاک میں ہے

والعقدینت ضیحاً للبح ترجمہ: قسم ہے ان (صحابہ) کے گھوڑوں کے ناپوں کی۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بہت سے مواقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و بشارات کی آیات و احادیث میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں (وقار الفتاویٰ) جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے والد حضرت سفیان والدہ حضرت ہندہ اسی طرح عمرو بن عاص مغیرہ بن شعبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم وغیرہ کسی کی شان میں تیرہ کرے یا قائل ہو رافضی ہے تو یہ کرے ورنہ سنی نہیں اس سے تعلقات منقطع کریں۔ (فتاویٰ فیض الرسول)۔

تمام صحابہ کی تعظیم فرض ہے سب عدول ہیں ان کے مشاجرات کا بیان حرام ہے جس میں سوئے ظن کا قوی خوف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں والدین سے قبل اسلام لائے نسب، صحبت و مصاہرت (سرالی) کا شرف نبی کریم ﷺ سے حاصل ہے ان امور کی وجہ سے جنت میں نبی کریم ﷺ کی رفاقت بھی لازم ہے ان کی شان بہت اونچی ہے ان کو کافر کہنے والا خود کافر و جنہمی ہے جو میرے صحابہ مہاجرین و انصار اور میرے سرالی رشتہ کو گالی دے اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ اس کا نہ نفل نہ فرض قبول فرماتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے آپ پر طعن حرام اشد حرام ہے وہ مجتہد تھے اور مجتہد کو خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے (فتاویٰ بریلی) امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا تب و جی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے ان کی لڑائیوں پر تبصرہ اور تنقید مناسب نہیں ہمیں حکم و منصف بننے کی کیا ضرورت ہے بہر حال طعن سے بچا جائے یہی اہلسنت کا مسلک ہے (دین مصطفیٰ از محمود احمد رضوی)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان خلافت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا ان کی جنگیں اجتہاد پر مبنی تھیں (امام ابن ہمام حنفی مسایرہ، بحوالہ اسالیب البدیعیہ علامہ نبہانی) امام غزالی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان خلافت اور امامت پر اختلافات نہ تھے معاملہ قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس بات کو سلجھانے کے لئے تشریف لائیں مگر معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اور ایسا ہو جاتا ہے کہ نتائج ارادہ کے مطابق نہیں نکلتے سب (صحابہ) کے بارے میں نیک گمان رکھنا اور بدگمانی سے بچنا چاہئے اہلسنت تو تمام صحابہ کی عدالت و پاکیزہ نفسی کا عقیدہ رکھتے ہیں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مبینہ (یعنی تاریخ میں بیان کئے گئے) واقعات سچ، جھوٹ کا ملغوبہ ہیں زیادہ تر رافضیوں (شیعہ) خارجیوں، بکواسیوں کی من گھڑت اور بے بنیاد روایات پر مبنی ہیں شرعی ضابطہ یہ ہے کہ کسی عام مسلمان کی غلطی پر حسن ظن رکھتے ہوئے اسے طعن و ملامت نہ کرنا ہی زیادہ اچھا سمجھا گیا ہے تو پھر ان خاص قدسی صفات نفوس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کسی غلطی کو حسن ظن رکھتے ہوئے نظر انداز کر دینا تو بدرجہ اولیٰ اچھا ہو گا (احیاء العلوم ملخصاً الاسالیب البدیعیہ)

حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان (صحابہ) کے خون سے بچایا ہے تو اب ہمیں اپنی زبانوں کو بھی صحابہ پر طعن کرنے سے بچانا چاہئے (فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مخالفین کا محاسبہ)

علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں اہلسنت کے نزدیک

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مانند ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا یہ صحابہ مجتہد تھے اور مجتہد کو فعل اجتہاد میں خطا پر بھی ثواب ملتا ہے گناہ نہیں ہوتا خروج کرنے والے (صحابہ) کی نیتیں صحیح اور صاف تھیں ان کا قصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کا تھا تا کہ فاسق و فاجر لوگ نیک حکمرانوں کے خلاف کسی اقدام کی جرات نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات (سورہ: ۱۱۳) کہ بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور حدیث پاک ہے کہ بدی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے پھر جب (امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد) امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مستقل ۲۰ سال حکمرانی کی جہادی کاموں میں مشغول رہے بہت سے علاقے فتح کر کے دار کفر سے دارالاسلام بنائے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے پھر قیامت تک ان مسلمانوں کی نسلوں میں مسلمان رہینگے جن کی نیکیوں کا ثواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برابر ملتا رہے گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاف فرمادیں گے ایک روایت بصحت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ روز قیامت حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور میں اس آیت ونزنا ما فی صدورہم من غل (یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے) کا مصداق ہوں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو: علامہ نبہانی فرماتے ہیں اسے تاریخ کے مطالعہ سے طیش میں آنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پاک ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاف نہیں کریں گے یہ تمہاری بھول ہے اگر زمین بھر کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں تب بھی انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے بحر عفو و درگزر سے نوازنا ایک معمولی بات ہے

آپ کی وسعت شانِ کریم سے یہ بات بعید ہے کہ دشمن سے انتقام لینے کے لیے مقام رفیع سے نیچے آئیں جب کہ مخالف ہم پایہ بھی نہ ہو اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے کہ جہاں بھر کے لوگ اگر آپ سے برا سلوک کریں تو آپ انہیں معاف فرمادیں گے کیونکہ قرآن پاک میں ہے وان تعضوا اقرب للتعوی (البقرہ: ۲۳۷) اگر وہ معاف کر دیں تو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے معافی تقویٰ کے اور تقویٰ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور باعث قرب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقکم (الحجرات ۱۳) بے شک سب سے زیادہ تقویٰ والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے (الاسالیب البدیعیہ)

اعلیٰ حضرت امام بریلوی کا نظریہ: تمام صحابہ کی تعظیم فرض ہے ہم

اہلسنت ان (صحابہ) کے مشاجرات (اختلافات) حنفی، شافعی جیسے سمجھتے ہیں اور ان میں دخل اندازی حرام جانتے ہیں ہمارے نزدیک کسی ادنیٰ (چھوٹے) صحابی پر طعن جائز نہیں ہم بحمد اللہ تعالیٰ اہل بیت کے غلامانِ خانہ زاد ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں کہ ان کی بے جا حمایت کریں مگر جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی بشارت کے مطابق صلح کر کے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجلہ صحابہ سے ہیں اگر العیاذ باللہ وہ کافر، فاسق، فاجر، ظالم، جابر یا غاصب تھے تو پھر الزام امام حسن رضی اللہ عنہ پر آئے گا حاشا للہ بلکہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اس صلح کو حضور ﷺ نے اپنی پیشن گوئی میں بیان فرمایا تھا اور ان کی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا تھا جیسے کہ بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے

روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے اصحاب سے لغزش ہوگی جسے اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا میرے ساتھ سابقہ تعلق کے سبب علامہ خفاجی شرح شفا میں فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے (سیرت مصطفیٰ جان رحمت)

تمام صحابہ سرکار و عالم ﷺ کے محبوب ہیں اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو جو شخص نبی کریم ﷺ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر صحابہ سے خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ اعتراض بنانا اور بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ جھوٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے پانچویں پشت میں نبی کریم ﷺ سے جا ملتا ہے یعنی اہل قرابت سے ہیں۔ حضور ﷺ کے حقیقی سالے ہیں اس لحاظ سے تمام مومنوں کے ماموں ہیں صلح حدیبیہ کے دن سن ۶ ہجری کو اسلام لائے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگیں اور اختلافات تاویل پر مبنی ہیں وہ مجتہد تھے اس لئے عدالت سے خارج نہیں ہوئے لہذا قرآن مجید میں ساری فضیلتیں جو صحابہ کرام کی بیان ہوئی ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے بھی ثابت ہیں امام بخاری اور امام مسلم جیسی محتاط ہستیاں بھی ان سے روایت لیتی ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو خلافت سپرد کی اور ان کے تحفے ہدیے قبول فرمائے قسم ہے وحدہ لا شریک کی اگر امیر معاویہ باطل پرست ہوتے تو امام حسن رضی اللہ عنہ سرکشادیتے مگر ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے (مولانا جلال الدین امجدی) شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ﷺ نے جن ہستیوں کو اپنا ہماز، دمساز اور وزیر و مشیر منتخب کئے رکھا ان کی طرف نفاق و کفر کی نسبت اور ان کے صدق و صفا پر اعتراض براہ راست مہبط وحی ﷺ پر اعتراض ہے جو کہ آپ ﷺ کی کھلی گستاخی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے معاونین حضرت طلحہ، حضرت زبیر

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کی صرف غلط فہمی اور خطا اجتہادی کی وجہ سے اختلاف و نزاع کی نوبت یہاں تک پہنچی حضرات انبیاء علیہم السلام عظیم ترین افراد ہیں مگر دیکھیں کہ سگے بھائی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہما السلام میں نزاع نے کیا صورت اختیار کر لی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو انبیاء علیہم السلام کے مرتبہ کو پہنچ ہی نہیں سکتے لہذا اس قسم کے افعال کا صدور بعید از قیاس نہیں ہو سکتا۔۔۔ تو (امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کی) اس تفویض سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فی نفسہ فضیلت اور اہلیت و استحقاق مسلم ہے البتہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر فضیلت لازم نہیں آتی نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں (تحفہ حسینیہ از شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی)

رشتہ داریاں: حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے میرے خاندان میں شادی کی یا میں نے جس خاندان میں شادی کی (الخصائص الکبریٰ) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن نبی کریم ﷺ کی بیوی تھیں اور حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بھانجی لیلہ بنت مرہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اور امام علی اکبر کی والدہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن نبی کریم ﷺ کے ہم زلف بھی تھے آپ ﷺ کی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن امیر معاویہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی پوتی نفیسہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے سے ہوا۔

اب بتاؤ کس کو گالی دو گے اور کس کو برا کہو گے سسروں کو یا دامادوں کو۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھا کر فرمایا تم دونوں لڑو گے مگر تم دونوں جنتی ہو

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگیں ہوئیں اس کے باوجود امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔۔۔۔۔ یہ کیسے محبت اہل بیت ہیں کہ ادھر دامادوں کو اور ادھر سسرالیوں کو گالیاں دے رہے ہیں محبت تو محبوب کی گلی کے کتے کے بھی پاؤں چومتا ہے (یارانِ مصطفیٰ ﷺ از مفتی غلام حسن قادری حزب الاحناف لاہور)

پائے سب بوسید مجنوں خلق گفتہ این چه بود

گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلی رفته بود

صدر الشریعہ کا نظریہ: تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل خیر و صلاح، عادل ان کا ذکر خیر

(بھلائی) کے ساتھ کرنا فرض ہے کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت (بے ادبی کرنا) بد مذہبی، گمراہی، استحقاقِ جہنم ہے ایسا شخص رافضی (شیعہ) ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے حضرت امیر معاویہ ان کے والد ماجد حضرت سفیان، والدہ ماجدہ حضرت ہندہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت موسیٰ اشعری، حضرت وحشی رضی اللہ عنہم، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی اور تبرا کا قائل رافضی (شیعہ) ہے۔۔۔۔۔

کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہم جو واقعات (جھگڑے) ہوئے ان میں پڑنا حرام، سخت حرام ہے۔۔۔۔۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے بالقصد اور بالاختیار خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر کے بیعت فرمائی اس صلح کی نبی کریم ﷺ نے پسندیدگی سے بشارت دی تھی اب صحابہ کے (اس صلح و رجوع کے بعد) حضرت امیر

معاویہ رضی اللہ عنہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقتہً حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ بلکہ حضور ﷺ بلکہ اللہ تعالیٰ پر طعن کرتا ہے۔۔۔۔۔ (اور باغی کہنا) کہ ان حضرات پر بوجہ رجوع اس (یعنی باغی کا) اطلاق نہیں ہو سکتا کہ اب باغی بمعنی مفسد، معاند، سرکش ہو گیا اور دشنام (گالی) سمجھا جاتا ہے اس لیے کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں سورہ حدید آیت نمبر ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم (ابے صحابہ) کرو گے۔

جب اللہ تعالیٰ صحابہ کے تمام اعمال جان کر جنت، بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکا تو کسی دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات، پر طعن یا گرفت کرے جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کے خلاف ہے مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقائے دو عالم ﷺ کے جانشین اور سچے غلام ہیں (بہار شریعت مصدقہ اعلیٰ حضرت بریلوی)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے برادر نسبتی (سالے) تھے اس نسبت سے وہ حضور ﷺ کے سسرالی خاندان کے فرد ٹھہرے جس طرح نبی کریم ﷺ کے اہل بیت سے محبت کا ہونا ضروری ہے ایسے ہی حضور ﷺ سے سسرالی رشتوں سے بھی محبت لازم ہے بریں بنا ان سے محبت رکھنا دین ہے اور بغض حرام، اسلام سے قبل کے واقعات کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ اسلام پہلے گناہوں مثلاً دیتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ نے بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہو کر معذرت کی اور بھنا ہوا گوشت پیش کیا مدارج نبوت میں ہے دو بکریاں پیش کیں حضور ﷺ نے برکت کی دعا فرمائی اور عرض کی میں سچے دل سے ایمان لائی ہوں حضور ﷺ نے خوش آمدید کہا اور دعائے مغفرت فرمائی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جیسے اسلام سے پہلے آپ نے

زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اب آپ ﷺ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ابھی میری محبت میں اور زیادتی ہوگی حضرت امیر معاویہ کے والد ابوسفیان کو حضرت عباس بروز فتح مکہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں لے کر آئے انھوں نے معذرت کی اور اسلام قبول کیا حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ابوسفیان پر کچھ عنایت فرمائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا جو ابوسفیان کے گھر پناہ لے اُس کے لیے بھی امان ہے (جلوہ جاناں ﷺ از سید منظور شاہ شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ) مولانا محمد صدیق ضیاء لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا تحکیم (یعنی ثالثی کمیٹی بنانے) سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کفر و اسلام اور حق و باطل یا بغض و عناد کے باعث نہیں ہوئی تھی جب کہ خارجیوں نے کہا کہ تحکیم خدا کے دین میں درست نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم کے جواز، اثبات پر قرآن کریم کی آیت و ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما (نساء ۳۵) سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا پس امت محمد ﷺ ایک مرد اور ایک عورت کے خون اور حرمت سے بہت بڑی ہے تم مجھ سے اس کو ناپسند کرتے ہو کہ میں نے معاویہ سے صلح کر لی (ازالۃ الخفا) اور امت کے دشمن خارجیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صلح و تحکیم پسند نہ آئی اسے شرک کہا اس لیے انھوں نے خروج کیا جیسا کہ آج بھی کچھ فساد یوں کو حضرت علی و امام حسن رضی اللہ عنہما کی یہ تحکیم صلح قبول نہیں اور موقعہ پا کر وہی ابن سبا یہودی کے گھسے پٹے سوالات و خرافات کو بار بار اچھال کر معاشرے میں انتشار و افتراق پیدا کرتے ہیں جن کے مسکت جوابات ہمارے اسلاف صدیوں پہلے اپنی کتب میں رقم فرما چکے ہیں

صریح ناصافی: اے دشمنان معاویہ تم کو بھی یہ صلح پسند نہیں آپ خارجیوں کی پیروی

میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہی کریں گے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے لڑنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی نہیں بلکہ ان سے بلند مرتبہ عشرہ مبشرہ میں شامل کئی بزرگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑ کر شہید ہو چکے تھے تو کیا کوئی ان سب کو بھی باطل پر ہونے کا طعن کر سکتا ہے امام ابن حجر کی فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی تخصیص ایک صریح ناصافی ہے کیونکہ وہ اس بات میں اکیلے نہیں بڑے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے موافق ہیں، (تظہیر الجمان)

مناسب یہی ہے کہ خارجیوں کی پیروی کی بجائے حضرت علی بلکہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیروی کریں جنہوں نے مصالحت کر لی اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی حدیث پاک کے مطابق مسلمانوں پر خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی واجب و لازم ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین (مشکوٰۃ شریف بروایت احمد ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ) کہ تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو پس جو مسلمان ہے اس پر حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کی پیروی لازم ہے کوئی نام نہاد مفکر اسلام ہو کسی جماعت کا کوئی امیر ہو یا سینوں کا کوئی عالم یا پیرا سے سیدنا علی اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کی پیروی سے چارہ نہیں (فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مخالفین کا محاسبہ) خارجیت سے بچنے اور اہلسنت کی متابعت پر کار بند ہونے کے لئے یہ از حد ضروری ہے شعر:

اندھیری شب ہے جد اپنے قافلے سے ہے تو۔۔۔ تیرے لئے ہے میرا شعلہ نوا قندیل

صحابہ کا شرف صحابیت یقینی ہے اور ان کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ظنی ہے اور ظن یقین کے معارض و مقابل نہیں ہو سکتا (تکمیل الایمان) حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں آپ (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) کے مخالف طعن و ملامت کے لائق نہیں۔۔۔ وہ اہل اسلام کا جم غفیر ہے ان کی تکفیر یا تشنیع کوئی آسان کام نہیں اگر وہ مطعون ہوں تو نصف دین سے اعتماد اٹھ جائے گا (مکتوبات شریف) مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کی محبت و غلامی کا دعویٰ کرنے والو یہ بھی کوئی محبت ہے یہ محبت نہیں بلکہ مخالفت ہے اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صلح میں صریح مخالفت کو بھی محبت اور غلامی سمجھتا ہے تو یہ فلسفہ محبت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے:

انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے زوالے ہیں

یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں مجتہدوں کا اختلاف جائز اور ہر مجتہد اجر کا مستحق ہے یہ خطا جو لڑائی کا باعث بنی اہل سنت کے نزدیک اجتہادی خطا تھی بہر حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف لڑنے والوں کی خطا اجتہادی نے بھی انہیں ثواب ہی کا حقدار ٹھہرایا ہے گناہ کا نہیں اگر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے صحابہ کا مقصود رضائے الہی کا حصول مانا جائے اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے صحابہ کا مقصود رضائے الہی کا حصول نہ مانا جائے یا کسی فریق کو بغض و عناد اور نفرت و کینہ کا مرتکب قرار دیا جائے تو قرآنی آیات یتغون فضلاً من اللہ و رضواناً (الفق: ۲۹) یعنی سب صحابہ اللہ کے فضل اور اسکی رضا کے طلب گار ہیں رحماً بینہم یعنی صحابہ آپس میں مہربان ہیں و نزعنا ما فی صدورہم من غل الخ (الاعراف: ۴۳) اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے

دلوں سے کینہ نکال کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ان جیسی دیگر کئی آیات کا انکار لازم آتا ہے جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے (فضائل امیر معاویہ از محمد صدیق ضیا صاحب)

مفتی فضیل رضا عطاری کا فتویٰ: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تحقیر

کرنے، شان کو ہلکا سمجھنے اور یہ کہنے والا کہ مولویوں کو معاویہ کی بڑی فکر ہے گویا ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ایسا شخص بد باطن، خبیث قلب، گمراہ اور جہنم کا حقدار ہے کیونکہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل ہیں اور ہم پر فرض ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کریں تو خیر سے ہی کریں کسی بھی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یا بد مذہبی گمراہی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جانثار صحابی، تمام مومنین کے ماموں، کاتب وحی اور ایک سوتریٹھ احادیث کے راوی ہیں کسی کو ان کے بارے میں کلام کرنے کا کوئی حق نہیں ان کی مذمت بیان کرنے والے پر لعنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے (مفتی فضیل رضا قادری عطاری دارالافتاء اہلسنت مسجد کنز الایمان بابرہی چوک گراچی)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے جلیل القدر صحابی، کاتب وحی تھے۔۔۔ جوان کی صحابیت کا منکر ہو اور بغض عداوت رکھنے والا ہو وہ گمراہ، رافضی، شتر الاشارہ ہے (فتاویٰ جامعہ نظامیہ لاہور) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کے بعد بالاتفاق خلیفہ برحق قرار پائے اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانے وہ خارق اجماع مسلمین ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مخالف اور دشمن ہے بلکہ درحقیقت اس میں شائبہ رخص ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو یا ان کی شان میں گستاخ ہو وہ بھی گمراہ، ضال اور رافضی ہے (فتاویٰ اجملیہ)

امام بخاری نے بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی باب باندھا ہے اور ان کو صحابی و مجتہد ثابت کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں متعدد مرفوع صحیح حدیثیں وارد ہیں (نزہۃ القاری شرح بخاری) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود بتایا کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا وہ کاتب وحی تھے حضور ﷺ نے انھیں دعائیں دی ہیں ایک سوتریٹھ (۱۶۳) احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جن میں سے ۸ آٹھ بخاری شریف میں ہیں اور پانچ ۵ مسلم شریف میں ہیں ان سے اجلہ صحابہ مثلاً ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیثیں لی ہیں، بستان، سوڈان، قوہستان کی فتوحات ان کے دور میں ہوئیں قسطنطنیہ پر پہلا حملہ انھی کے عہد میں ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے کچھ لوگ ان پر طعن کرتے ہیں لیکن کسی صحابی پر طعن کرنا جائز نہیں قرآن مجید میں نص صریح ہے کہ اللہ عزوجل تمام صحابہ سے راضی ہے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ان سب پر کلمہ تقویٰ لازم فرمادیا کاناواحق بہاواہلہا یعنی (صحابہ) اس (کلمہ تقویٰ) کے مستحق و اہل تھے خواہ قبل یا بعد فتح کے ہوں سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے یہ قرآن مجید کے نصوص قطعیہ ہیں اور جن واقعات پر طعن کیا جاتا ہے وہ سب خمیر واحد اور اکثر ضعاف و مجروح ہیں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں اخبار آحاد وہ بھی کتب توارخ وہ بھی ضعاف کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں اس لئے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن مجید کے ارشادات پر ایمان رکھیں اور توارخ کی لغو و مہمل روایات کو سنیں بھی نہیں (نزہۃ القاری شرح بخاری)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی غزوہ طائف میں آنکھ نکل گئی نبی کریم ﷺ

کو خبر ملی تو ان کے پاس تشریف لائے دیکھا کہ ڈھیلا ہاتھ میں لئے ہیں فرمایا یہ آنکھ راہ خدا میں گئی ہے اگر کہو تو دعا کر دوں آنکھ ٹھیک ہو جائے یا اس کے عوض جنت ملے عرض کیا جنت اختیار کرتا ہوں دوسری آنکھ جنگ یرموک میں راہ خدا میں قربان ہو گئی اس کے بعد مدینہ شریف میں رہائش اختیار کر لی مدینہ شریف میں ہی وفات پائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی جنت البقیع میں دفن نصیب ہوا (نزہۃ القاری شرح بخاری)

فتح مکہ اور اس کے بعد حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضری دیکر ایمان لانے والے سب لوگوں کے مومن ہونے کی قرآن نے گواہی دی لہذا ابوسفیان، ہندہ، امیر معاویہ، وحشی رضی اللہ عنہم حکم قرآن مومن ہیں ان کے ایمان اور دین اسلام میں داخل ہونے کی خبر تو قرآن پاک نے دی ان کے ایمان سے نکل جانے کی کوئی آیت نہیں ہے اگر یہ لوگ آئندہ مرتد ہو جانے والے ہوتے تو ان کے ایمان لانے پر حضور ﷺ کو شکر کا حکم نہ دیا جاتا (مرآۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۶) یعنی فسبح بحمد ربک واستغفرہ کہ محبوب اپنے رب کی تسبیح و حمد کراد اور ان (صحابہ) کی بخشش چاہو۔ (نصر، پ ۳۰)

اب ہم ایک ایسا حوالہ پیش کر رہے ہیں جن کو ہمارے حریف صاحب نے اپنے خطاب میں عصر حاضر کا چوٹی کا مؤرخ تسلیم کیا ہے یعنی پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری۔

پیر صاحب لکھتے ہیں اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اس کے بعد کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان میں سے کسی پر زبان طعن دراز کرے اسے چاہئے کہ ان حضرات کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اور اپنے بندوں کی نیتوں پر پوری طرح آگاہ ہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان میں جو جنگ و قتال ہوئے ہیں ان کی وجہ

بدینتی نہیں بلکہ اجتہاد ہے (ضیاء النبی)

پیر صاحب شہ سمرنی سے لکھتے ہیں حضرت معاویہ بن سفیان کے لئے دعا:

اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما ان کو ملک میں تمکین عطا فرما اور اسکو عذاب سے بچا اے اللہ انکو ہادی اور مہدی بنا دے آخر میں پیر صاحب لکھتے ہیں حضور ﷺ نے ان کے حق میں جو دعائیں کیں وہ قبول ہوئیں صدیق اکبر نے انہیں شام کا والی بنایا حضرت عمر نے ان کو بحال رکھا حضرت عثمان کے زمانے میں شام کے گورنر ہے۔۔۔ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تو اس وقت سے حضرت امیر معاویہ ساری مملکت اسلامیہ کے بالاتفاق خلیفہ قرار پائے۔ اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی (ضیاء النبی)

حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ابوسفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب ۷ ہجری کو نبی کریم ﷺ سے ہوا تو اس کے بعد ابوسفیان اسلام کے خلاف کسی کاروائی کی قیادت کرتا نظر نہیں آتا (ضیاء النبی)

بلکہ ایک موقع پر ابوسفیان نے نبی کریم ﷺ کے حکم پر ایک کام کیا تو نبی کریم ﷺ نے ابوسفیان کے لئے دعا فرمائی اے اللہ ابوسفیان کے اس فعل کو فراموش نہ کرنا (ضیاء النبی)

شان سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام

"قل ان الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء والله واسع عليم" (ال عمران: ۷۳)

محبوب فرما دو کہ بیشک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔

حضرت امام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے (صواعق محرقة) میں ساری امت پر افضلیت صدیق اکبر کی تصریح کا مستقل باب باندھ کر لکھتے ہیں اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس امر پر علماء امت اور عظمائے ملت کا اتفاق ہو چکا ہے وہ یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس امت کے افضل ترین آدمی ہیں۔۔۔ ان کی تقدیم کے اجماع کی روایت کرنے والی اکابر آئمہ کی وہ جماعت ہے جس میں حضرت امام شافعی بھی شامل ہیں۔۔۔ اگر کوئی کہے کہ اس اجماع کا مستند کیا ہے تو میں (ابن حجر) کا جواب یہ ہے کہ اجماع ہر شخص پر حجت ہے۔۔۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ضلالت پر اجماع کرنے سے محفوظ رکھا ہے۔ قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں اکثر فقہاء متکلمین اور مناظرین کہتے ہیں کہ جو ایسے صحیح اجماع کا منکر ہے جسکی شروط جامع اور عام طور پر متفق علیہ ہیں وہ کافر ہے کچھ (اسلاف) نے اجماع کے مخالف کی تکفیر پر اجماع بیان کیا اور اس پر دلیل قرآن کی یہ آیت پیش کی ہے و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولیٰ و نصله جهنم و ساءت مصیراً ترجمہ جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر چلے ہم اسے ادھر ہی پھیر دینگے اور جہنم میں ڈالیں گے جوڑ اٹھکانا ہے اس آیت سے واضح ہو گیا کہ جو مومنین کی راہ سے ہٹ جائے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ امام ابن حجر صواعق محرقة میں فرماتے ہیں معتبر حضرات کا اتفاق ہے کہ اجماع حجت قطعی ہے تمام دلائل پر مقدم کیا جائے گا کوئی دلیل اس کا معارضہ نہ کر سکے گی اور اس کے مخالف کی تکفیر، تھلیل اور تبعیہ کی جائے گی۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان (خلفا) کا مقام (فضیلت) خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے ہی

ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت قطعی سے ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں ابو بکر و عمر افضل الامة ہیں جو مجھے ان پر فضیلت دے میں اس پر مفسری کی حد لگاؤں گا نہ مجھے ان کی فضیلت کا انکار ہے نہ اپنی برتری کا خیال ہم ابو بکر سے کسی نیکی میں آگے نہیں ہیں۔

ہر زمانہ میں اجماع رہا: ابن حجر فرماتے ہیں ہمارا ہر زمانے میں نبی کریم ﷺ

کے زمانے تک اس پر اجماع رہا ہے۔۔ اگر کوئی دل سے دینی محبت کے باعث حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتا ہے تو یہ جائز نہیں (صواعق محرقة) امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بارہ قرآنی آیات اور (۱۱۴) ایک سو چودہ احادیث نبویہ اپنی کتاب صواعق محرقة میں درج فرمائی ہیں جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ان اعلیٰ درجہ کے کمالات، شان و رفعت اور فضائل و افضال کا بیان ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منفرد ہیں۔ طوالت کے خوف سے ذیل میں چند پیش کی جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقکم (شوری: ۱۳۰) ترجمہ: بیشک اللہ کے نزدیک مکرم و معظم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے دوسرے مقام پر فرمایا و سیجنہا الاتقی (لیل ۱۷)

امام رازی فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں الاتقی سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور لفظ الاتقی تفصیل کا صیغہ ہے جو کہ خصوصیت (مبالغہ) کا متقاضی ہے دونوں آیات سے نتیجہ

یہ نکلا کہ عند اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لقیہ امت سے افضل ہیں (صواعق محرقة) ولا یا تل اولو

الفضل منکم والسعة (النور: ۲۲) الخ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اس آیت کے الفاظ الفضل منکم سے آپ کی فضیلت واضح و صریح طور پر ثابت ہوتی ہے (صواعق محرقة) والذی جاء با لصدق و صدق بہ (الزمر: ۳۳) میں صدق بہ سے مراد ابن عسا کر اور بزاز فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسری آیت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین (النساء: ۶۹) میں نبیوں کے بعد صدیقین افضل ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا صدیق ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے بلکہ امام حجر امام نووی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امت نے بالاجماع آپ کا نام صدیق رکھا ہے لہذا انبیاء و مرسلین ہمہ الامم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت صرف اکثریت و اجماع سے ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی بالکل واضح ان نصوص کی دلالت سے بھی ثابت ہے۔ علامہ نبہانی (جو اہل ہجرات) میں روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا اور میرے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں خلفاء ثلاثہ پر حضرت ابو بکر کی افضلیت قطعی و یقینی ہے (جو اہل ہجرات)

امام ترمذی اور امام حاکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے بہتر ہمارے سردار اور ہم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کو محبوب ہیں (صواعق محرقة) بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابوداؤد کی روایات موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں خلفاء ثلاثہ کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کی زندگی میں خلفاء ثلاثہ کو افضل کہا کرتے تھے۔ ابن

عسا کر سلیمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اچھے خصائل تین ساتھ (۳۶۰) ہیں جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی ایک خصیلت اس میں رکھ دیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان میں سے کوئی مجھ میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہاں وہ سب خصیلتیں تم میں موجود ہیں۔ ابن عساکر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری تمام امت پر

ابوبکر سے محبت رکھنا اور شکر یہ ادا کرنا واجب ہے ابن ابی داؤد نے جعفر سے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر نبی کریم ﷺ کے ساتھ جبرائیل کی آواز کون لیا کرتے تھے۔ حاکم نے ابن مسیب سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ تمام امور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا کرتے وہ ثانی فی الاسلام، ثانی فی الغار، بدر میں ثانی فی العریش اور اب قیامت تک ثانی فی القبر ہیں رسول اکرم ﷺ ابوبکر پر کسی کو مقدم نہیں کرتے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں جن کو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کہا گیا آپ کے سواہ القابات کسی کے ساتھ نہ بولے گئے (صواعق محرقة) زہدی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ابوبکر کی موجودگی میں کسی کو امامت نہیں کرانی چاہیے بیہقی شریف) میں ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا اہل زمین کے ایمان سے وزن کیا جائے تو ابوبکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں ابوبکر کے سینے کا بال ہوتا

طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں اشعار سنائیں انہوں نے وہ اشعار سنائے تو سرکارِ دو عالم ﷺ اس قدر مسکرائے کہ آپ ﷺ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگیں ان اشعار میں سے ایک شعر کا ترجمہ پیش کیا

جاتا ہے کہ ابوبکر رسول اللہ ﷺ کا محبوب ہے تحقیق لوگوں کو معلوم ہے کہ مخلوق میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں (صواعق محرقة) امام ابن حجر صواعق محرقة میں فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس قدر مناقب، کرامات اور خصوصیات و فضائل ہیں کہ ان میں سے ایک (وصف) کی نظیر بھی صحابہ کرام میں نہیں پائی جاتی آپ کے فضائل حد و شمار میں نہیں آسکتے

اہل اللہ اہل بیت سے بہتر ہیں: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، رضی اللہ عنہم میرے اہل بیت ہیں اور ابوبکر و عمر اہل اللہ ہیں اور اہل اللہ میرے اہل بیت سے بہتر ہیں (صواعق محرقة) حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری روایت کرتے ہیں سرکارِ دو عالم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی شخص کو ابوبکر پر فضیلت نہ دے وہ دنیا و آخرت میں تم سب سے افضل ہیں (صواعق محرقة) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے بعد ابوبکر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتی کیونکہ صحابہ کی مخالفت کے باوجود آپ نے مرتدین و اعمین زکوٰۃ سے قتال کیا اسلام کو فتنہ سے بچایا جس طرح آپ نے حق خلافت ادا کیا کسی اور سے ممکن نہ تھا یہ ایک قطع معلوم بات ہے جس کا انکار کوئی معاند، دکابر، جاہل اور غبی ہی کر سکتا ہے (صواعق محرقة)

حد از انبیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا افضل ہونا اہلسنت کے نزدیک مسلم ہے شرح عقائد نسفی تاریخ الخلفاء میں موجود ہے کہ انبیا کے بعد صدیق اکبر سب سے افضل ہیں اس پر اہل سنت کا اجماع ہے قاضی ابوالحسین احمد بن محمد زہیری "معالی الفرش الی عوالی العرش" میں فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نبی

کریم ﷺ کے رفیق اور یار تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، فطری کے بعد اسلام تو حیدی و انحصی میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں دارقطنی اور محبت طبری حضرت امام حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ باتوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجھ سے بڑھ گئے جو مجھے نہیں سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے، ہجرت کرنے، نماز قائم کرنے میں (فتاویٰ فیض الرسول) تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دینے والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، گناہ اور واجب الاعادہ ہے خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہے (فتاویٰ امجدیہ) حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بڑے خصوصی فضائل ہیں بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مسلمانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال اور رفاقت کا مجھ پر بہت احسان ہے ایک موقع پر نبی مکرم ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر قیامت کے دن خدا سب پر عموماً تجلی فرمائے گا مگر تیرے ساتھ ایک خاص تجلی ہوگی ایک دفعہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی راز میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے وہ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے (مرآة العرفان) مورخین نے لکھا ہے کہ سب اجلہ صحابہ نے بخوشی ابو بکر صدیق کی بیعت کی (اوراق غم) حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا بذریعہ وحی تھا۔ آپ تمام غزوات میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہے اور ہجوم مصائب و شدائد کو محبت رسول ﷺ میں کبھی بھی حائل نہیں ہونے دیا (الخصائص الکبریٰ)

تفضیل شیخین اہلسنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے اور اصحاب فتح مکہ اور بعد فتح مکہ کے درجات میں فرق ہے مگر سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ حسنیٰ فرمایا اور ساتھ تشبیہ بھی کر دی کہ ان سے کسی عمل کا صادر

ہونا مانع وعدہ الہیہ نہیں یعنی کسی غلطی کی وجہ سے آیت کریمہ میں مذکور وعدہ حسنیٰ سے وہ محروم نہیں ہونگے (فتاویٰ امجدیہ)

آفتاب گولڑہ کا نظریہ: حضرت اعلیٰ گولڑوی سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز میں امام بنا کر تصریح قوی کو عملی رنگ میں پیش فرمایا پھر امت پر کمال شفقت و رحمت کی وجہ سے احتیاطاً تحریری سند سے پختہ کرنا اور لکھ دینا چاہا مگر اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ خود بحسب وعدہ حقہ اس امر کی تکمیل فرمادے گا اور بحیثیت مجموعی کل مہاجرین و انصار کے قلوب میں حقانیت خلافت صدیقہ ڈال دے گا اور سب کا اس پر اجماع ہو جائے گا ارادہ تحریر ملتوی فرمایا (مشکوٰۃ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔۔۔ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو ابو بکر کے سوا کوئی منظور نہیں (تصفیہ مابین سنی و شیعہ) جس کا انفاق (اللہ کی راہ میں خرچ کرنا) قتال (جہاد کرنا) مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا اور شیخین (ابو بکر و عمر) کا انفاق و قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے لہذا ان کا۔۔۔ افضل ہونا ضروری سمجھا گیا ہے۔۔۔ مصداق نصوص۔۔۔ اور اوصاف کلیہ سے مصداق شخصیہ کا پتہ لگانے والے خود باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی تھے (تصفیہ مابین سنی و شیعہ)

خلافت صدیقی پر کچھ اختلافات کے بعد سب لوگ متفق الرائے ہو گئے۔۔۔ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ ہر فریق چاہتا تھا کہ میں خادم اسلام بنوں ریاست، شجیت یا طمع انسانی کا خیال ان مقدس لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا یہ کہنا کہ وہ حق غصب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے قابل صد

ملامت ہے۔ (تفسیر مابین السنی و الشیعہ) ان کے کام محض للہی اور شاہجہ نسانیت سے مبرا و منزہ ہوتے تھے جن کا مزگی اور تری کنندہ خود علام الغیوب ہو کیا وہ اس درجہ کے متعصب، ظالم اور ہوا پرست ہو سکتے ہیں ہرگز ہرگز نہیں (تفسیر مابین سنن و شیعہ) ابو بکر بن عیاش نے ابو حفص سے سنا کہ نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں (تفسیر مابین سنن و شیعہ) ترتیب خلافت راشدہ بحسب ایقائے وعدہ الہیہ وقوع میں آئی وہی حق ہے کیونکہ خود حق سبحانہ تعالیٰ منتظم کار ہے اس حقانیت پر ابتدا و انتہا اور فی مابین کے واقعات شاہد و عادل ہیں (تفسیر مابین سنن و شیعہ)

بہت سے ایسے کام ہیں جو فی ذاتہ صحیح بلکہ منجملہ اسباب کمال ایمان کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں مگر بوجہ غلو اور حد سے بڑھ جانے کے بد طینت و فاسد الرائے انسان انہی امور صحیحہ سے نتائج فاسدہ استنباط کر لیتے ہیں۔۔۔ بدیں خیال کہ رتبہ اہل بیت اور صحابہ سے تقدم پر نص کیوں نہیں وارد ہوئی یہ سب اصل صحیح اہل بیت میں غلو کے نتائج فاسدہ ہیں (تفسیر مابین سنن و شیعہ)

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں قرآن کی رو سے نبیوں کے بعد صدیقوں کا درجہ ہے (دین مصطفیٰ از سید محمود احمد رضوی)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں صحابہ کے اختلافات و تنازعات پر بحث سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے کوئی اختلاف نہ تھا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح ثابت ہے (غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی) (الاسالیب البدیجہ، علامہ بیہانی) امام ابن ہمام فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر

رضی اللہ عنہ سب صحابہ سے افضل ہیں کیونکہ سب کا اس سنت پر اتفاق ہے کہ نماز کی امامت کے لئے سب سے افضل کو مقدم کیا جائے فضیلت کے قرآن صرف صحابہ پر ہی ظاہر ہوئے اور ہم تک سمعی دلائل کے ذریعے ان کی صراحت پہنچی ہے (مسایرہ الاسالیب البدیجہ)

امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خلفاء راشدین کی ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے مطابق ہے فضیلت کی پہچان وحی پر موقوف ہے وحی سے آگاہی بلا واسطہ سماعت (یعنی سننے) پر تو ظاہر ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر رسول کریم ﷺ کی کیفیات سے آگاہ کوئی نہیں بس یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقدامیت و افضلیت پر اجماع کیا اگر صحابہ وحی کی روشنی میں معیار افضلیت نہ سمجھتے ہوتے تو یہ ترتیب قائم نہ کرتے کیونکہ وہ حق کے معاملہ میں نہ کسی کا لحاظ کرتے نہ کسی کی ملامت سے ڈرتے تھے (احیاء العلوم)

افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر آیات قرآنی: کسی آدمی کو یہ حق

نہیں کہ وہ اپنی پسند سے کسی کو افضل سمجھے فضیلت دینا صرف اللہ و رسول ﷺ کا حق ہے قل ان الفضل بید اللہ (آل عمران ۷۳) قرآن پاک کی تین آیتیں ایسی ہیں جن سے وضاحت ملتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں بلکہ افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں نمبر اول الذی جاء با لصدق (زمر: ۳۳) نمبر ثانی اثنین اذہما فی الغار (توبہ: ۴۰) نمبر ۳ محمد رسول اللہ والذین معہ الخ (فتح) ترتیب فضیلت خلافت کے لحاظ سے ہے افضلیت اولیٰ میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں اجماع صحابہ سے بھی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی

رضی اللہ عنہم کا ہی افضل ہونا ثابت ہے (بخاری، ابوداؤد، مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہی ہے کہ ہم (صحابہ) کا یہ عقیدہ تھا کہ امت میں نبی کریم ﷺ کے بعد سب سے افضل حضرات ابوبکر و عمر پھر عثمان ہیں یہ ہمارا عقیدہ نبی کریم ﷺ کو معلوم تھا آپ ﷺ ہمارے اس عقیدہ پر راضی تھے ورنہ ہمیں منع فرمادیتے کسی صحابی کا عقیدہ تفضیلیہ شیعہ کی طرح نہ تھا فتح الباری شرح بخاری جلد سوم میں ہے ثبت بالاحادیث الکثیرہ المشہورۃ ان افضل الصحابة ابو بکر و النبی ﷺ فی حیاتہ المبارکۃ یعنی بہت سی مشہور حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تمام صحابہ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت اجماع صحابہ و اجماع تابعین سے مسلم ہے فقہ کے چاروں آئمہ اور ان کے مقلدین افضلیت شیخین کو تسلیم کرتے ہیں جو مقلد ہو کر تفضیلی شیعہ بنے وہ مقلد نہیں وہ بہرہ و پیہ، دھوکے باز اور جھوٹا ہے اور قرآن مجید، احادیث پاک اجماع صحابہ، اجماع امت، فقہاء، علماء، اور آئمہ اہل بیت بلکہ مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے ان (شیعہ) نے افضلیت علی رضی اللہ عنہ کے بہانے چوراسی ہزار مسلمانوں کو شہید کیا (ملخصاً فتاویٰ نعیمیہ جلد چہارم)

اعلیٰ حضرت بریلوی نے تفضیلیہ کے رد میں درج ذیل چار کتب تصنیف فرمائیں:

(۱) الحرح الوالج فی بطن الخوارج (۲) الصمصام الحیدری علی حلق العیار المفتری

(۳) الرائحة العنبریة عن الجمرة الحیدریة (۴) لمعة الشمعہ لہدی شیعۃ الشنعۃ۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے صحابہ و اہل

بیت سے محبت ان کی ذات و نفس کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ رسول کریم ﷺ سے تعلق و رشتہ کے سبب سے ہے جس نے حضرت صدیق اکبر سے محبت کی اور حضرت علی سے محبت نہ کی تو معلوم ہو گیا کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے سے محبت کرتا ہے نبی اکرم ﷺ کا ساتھی، حبیب اور خلیفہ ہونے کے سبب حضرت صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتا اور جس نے حضرت علی سے محبت کی اور ابوبکر صدیق سے نہ کی وہ ابوطالب کے بیٹے سے محبت کرتا ہے حضور ﷺ کے بھائی، ولی اور نائب ہونے کے سبب حضرت علی سے محبت نہیں کرتا

چھڑی گرگئی: حضرت میمون بن مہران فقہائے تابعین سے ہیں ان سے کسی نے پوچھا

ابوبکر و عمر افضل ہیں یا حضرت علی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے رگیں پھڑکنے لگیں چھڑی ہاتھ سے گر گئی کہنے لگے مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میں اس زمانہ تک زندہ رہوں گا جب لوگ ابوبکر و عمر پر کسی کو فضیلت دیں گے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا نبی کریم ﷺ کے بعد سب سے افضل ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے اہل سنت کی پہچان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو سر کار دو عالم ﷺ کے بعد سب سے افضل جانے

اقوال اجماع: امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فضیلت حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما

پر صحابہ و تابعین کا اجماع نقل کیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخین کی فضیلت

قطعی یا قطعی جیسی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے افضل ہیں آپ کی امامت و خلافت کا منکر کافر ہے اعلیٰ حضرت بریلوی حضرت سید میر عبد الواحد حسینی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں اہل حق کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہما صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تمام علماء امت کا یہی عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ امام رازی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ سورۃ والیل حضرت ابو بکر صدیق کی اور والضحیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کوئی سورۃ نہیں رکھی تاکہ معلوم ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے درمیان کوئی شخص واسطہ نہیں جیسے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات میں کوئی واسطہ (حائل) نہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلا فصل افضل ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورۃ والیل کا نام والیل اور اس سورۃ کا والضحیٰ سے پہلے ہونے میں اشارہ اس طرف ہے کہ صدیق اکبر پر طعن کی برأت بدرجہ اولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برأت کا حکم کرتی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونے والی اس سورہ کا نام لیل اس لیے رکھا کہ لیل کہتے ہیں رات کو اور رات ہوتی ہے سکون کے لیے لہذا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ صدیق اکبر کی ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت، انس و سکون، اطمینان نفس کا باعث ہے اور محرم راز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاملات سے وابستہ رہنے والے تھے اور سورۃ والضحیٰ کو سورۃ والیل سے اس لئے منوخر کیا کہ والضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کا جواب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براءت سے ادنیٰ کی بھی براءت کا ہو جانا ضروری و لازم نہیں آتا (وہ آپ کی خصوصیت ہو سکتی ہے اور اس

سورۃ کا نام والضحیٰ ہونا اس طرف اشارہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چڑھے دن کی طرح حضرت صدیق اکبر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت و فضل کا ذریعہ اور طلب رضا کا وسیلہ ہے۔
(سیرت مصطفیٰ جان رحمت)

علمائے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بہتر ہیں علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے نبی کے کوئی شخص ایسا نہیں جس پر سورج طلوع و غروب ہوا ہو اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل ہو یعنی دنیا میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر بن لو میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو گے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے (فقہ ملت مفتی جلال الدین امجدی خطبات)

اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل و برتر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے حضرت مجدد الف ثانی شیخ فاروق احمد سرہندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں صداقت و نبوت ہم خانہ ہیں فرق صرف فضیلت و عدم فضیلت کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں ہم اسی ایک ہی مٹی میں دفن ہونگے زمانہ قیامت تک اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرتا رہے گا (یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی غلام حسن صاحب حزب الاحناف)
بعد از انبیاء و مرسلین علیہم السلام تمام مخلوقات البہیہ، انس و جن، ملک (فرشتوں) سے افضل

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر فاروق اعظم پھر حضرت عثمان غنی پھر حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ ہیں جو شخص مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کو صدیق و فاروق جہد سے افضل بتائے گمراہ و بد مذہب ہے ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا اور افضل کا یہ معنی نہیں کہ جسے ملک داری یا ملک گیری میں زیادہ سلیقہ ہو جیسا کہ آج کل سنی بننے والے تفضیلیئے کہتے ہیں (بہار شریعت مصدقہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ)

اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام ہر دم عادل نیک خواہ ہیں اگرچہ باہمی جنگوں میں جتلا ہوئے اگر ان کی روایت مشکوک ہو تو شریعت اسلامی صرف سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیات مبارکہ تک منحصر رہے گی اور قیامت تک کے تمام زمانوں پر محیط نہیں رہے گی صحابہ میں افضل علی الاطلاق حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں اس پر اہل سنت کا اجماع ہے (شرح صحیح مسلم از علامہ غلام رسول سعیدی)

امام بخاری ابی الحدیث نے بخاری شریف میں نبی کریم ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے پر باب باندھ کر سولہ (۱۶) احادیث بیان کیں ہیں جن میں سے ایک حضرت عثمان سے روایت ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا سب سے زیادہ آپ ﷺ کو کون پیارا ہے فرمایا عائشہ میں نے عرض کیا مردوں میں آپ ﷺ نے فرمایا اس کا باپ (ابو بکر) میں نے پوچھا پھر کون فرمایا عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جو امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر میرے بھائی اور دوست ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سوا کسی کو بھائی کہنے کا اعزاز نہیں بخشا وہ بخاری شریف کی اس حدیث کو ذرا تعصب کی عینک اتار کر ملاحظہ کریں ممکن ہے

اللہ تعالیٰ رافضیت کی نحوست سے نجات و رجوع نصیب فرمادے۔ مفتی شریف الحق امجدی ابی الحدیث نزهة القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں اہلسنت کا اجماع ہے کہ نبی کریم ﷺ بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالیٰ کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسل و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم کے بعد حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔۔۔ پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر پھر فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر مولیٰ علی رضی اللہ عنہ اس مذہب مہذب پر آیات قرآن عظیم و احادیث کثیرہ حضور پر نور نبی کریم ﷺ کے ارشادات جلیلہ و اصحہ امیر المؤمنین مولیٰ علی مرتضیٰ و دیگر ائمہ اہل بیت اطہار و ارتضاء و اجماع صحابہ کرام و تابعین عظام و تصریحات اولیاء امت و علماء ملت رضی اللہ عنہم جن سے وہ دلائل باہرہ و حجج قاہرہ ہیں جن کا استیعاب نہیں ہو سکتا۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت و رضوان و برکت امیر المؤمنین اسد حیدر، حق گو، حق داں، حق پرور کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر کہ اس جناب نے مسلمین کو بغایت مفضل فرمایا اپنی کرسی خلافت و عرش زمامت پر برسر منبر مسجد جامع و مشاہد جامع و جلوات عامہ و خلوات خاصہ میں بطریق عدیدہ، تامہ و مدیدہ، سپید و صاف، ظاہر و واشگاف، محکم و مفسر، بے احتمال دگر، حضرات شیخین کریمین وزیرین جلیلین (ابو بکر و عمر) رضی اللہ عنہما کا اپنی ذات پاک اور تمام امت مرحومہ سید لولاک ﷺ سے افضل و بہتر ہونا ایسے روشن و امین طور پر ارشاد کیا جس میں کسی طرح کا شائبہ و شک و تردید نہ

راہ مخالف مسئلہ کو مفتری بتایا اسی کوڑے کا مستحق ٹھہرایا حضرت علیؑ سے ان اقوال کریمہ کے راویین اسی سے زیادہ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں (سیرت مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ)

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اہل سنت کی علامات

(شانیاں) کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین و حبب الختین و المسح علی الخفین یعنی ابو بکر و عمر کو افضل ماننا ختین یعنی داماد عثمان و علیؑ سے محبت کرنا، خفین یعنی موزوں پر مسح کرنا (نزہۃ القاری شرح بخاری)

نوٹ: طاغوت برائڈ، اوجھے خیال، ماڈرن تفصیلیوں نے ایک نئی بکواس یہ نکالی ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ صرف سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت علیؑ مددرو حانی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ سیاسی خلیفہ سے افضل ہے طوالت سے بچنے کے لیے ہم اس کے جواب میں صرف حضرت پیرسید مہر علی شاہ صاحب آفتاب گولڑہ کا ایک ارشاد پیش کرتے ہیں جس میں ایسی تخریبی سوچ کا واضح الفاظ میں رد کیا گیا

حضرت گولڑوی فرماتے ہیں: نیابتِ نبوی کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے

جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو بس اسے صورتِ خلافت (یعنی ریاستِ عامہ) اور معنی خلافت (یعنی قرب انبیاء) دونوں (یعنی سیاسی و روحانی) کا جامع ہونا چاہیے جیسا کہ خلفاء اربعہ علیہم الرضوان تھے (فتاویٰ مہریہ)

مسئلہ علیہ السلام

1:- علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں ”سلام“ انبیاء عہم السلام کے علاوہ تنہا دوسروں پر استعمال نہیں کیا جائے گا پس حضرت علیؑ علیہ السلام نہیں کہا جائے گا اور اس پر اجماع ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی اور بزرگ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ کہا جائے کیونکہ علیہ السلام نبیوں کے لئے ہے۔ (افضل السادات علی سید السادات)

2- مستقل طور پر کسی غیر نبی پر صلوة یا سلام منع ہے (شان حبیب الرحمن)

3- غیر انبیاء پر سلام نہ بھیجا جائے البتہ برسبیل خطاب زندہ و فوت شدہ کے لئے مضائقہ نہیں (الخصائص الکبریٰ)

4- علماء کے ایک گروہ جماعت نے غیر نبی پر سلام مکروہ قرار دیا ہے (القول البدیع از علامہ سخاوی) سلام بھی صلوة کے معنی میں ہے غیر نبی پر بالاستقلال نہ پڑھا جائے (جواہر البحار)

5- علیہ السلام انبیاء و ملائکہ کے ساتھ خاص ہے ان کے سوا دوسروں کے نام پر استعمال نہ کیا جائے (بہار شریعت)

6- ہمارے نبی کے نام کے ساتھ (ﷺ) اور دیگر انبیاء کے ناموں کے ساتھ: کے الفاظ واجب ہیں اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے (شفاء شریف)

انبیاء کے ساتھ سلام یا صلوة کی تخصیص ضروری ہے دوسرے اماموں کے ساتھ بخشش و رضوان کا ذکر کیا جائے۔ (شفاء شریف)

۷۔ محققین اہل سنت کے نزدیک غیر انبیاء پر صلوة اور سلام استقلالاً جائز نہیں عرف سلف میں یہ شعار (نشانی) انبیاء کی ہے جو ان کے ساتھ مخصوص و لازم ہے (النبر اس)

متاخرین اہل سنت میں (غیر نبی پر علیہ السلام) کا ترک متعارف ہو چکا ہے (اشعة اللمعات جلد دوم)

۸۔ سلام صلوة کے معنی میں ہے لہذا ابوبکر، عمر، علی علیہم السلام نہ کہا جائے ہاں برسبیل خطاب زندہ و فوت کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں (امام نووی شرح مسلم)

۹۔ علامہ ابن عابدین نے شامی میں علامہ اسمعیل حقی نے روح البیان میں، ملا علی قاری نے مرقات میں علامہ آلوسی نے روح المعانی میں بحوالہ التبیان) قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظہری میں علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں، ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں علامہ عبدالغنی نابلسی نے حدیقتہ الندیہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ جیسے جلیل القدر حضرات نے غیر نبی پر استقلالاً صلوة یا سلام سے منع کیا ہے بعض نے شعار روافض اور مکروہ قرار دیا ہے۔

عدم جواز کے قائلین پر حرامی حرامی کا بہتان باندھنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی زد میں کتنی کتنی عظیم القدر ہستیاں آئیں گی العیاذ باللہ۔

۱۰۔ "علیہ السلام" کے الفاظ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں صحابہ، اہل بیت یا آئمہ کے اسمائے طیبہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم یا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ الفاظ ذکر کئے جائیں غیر نبی و ملائکہ کے سوا علیہ السلام کہنا منع ہے یہ رافضیوں (شیعہ) کا طریقہ ہے (فتاویٰ امجدیہ)

صحابہ و اہل بیت کو بعد کے الفاظ میں جو عظیم شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے قرآن پاک کی دوسری آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے اس انعام و شرف کو عظیم ترین فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر (التوبہ: ۷۲) ترجمہ: کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑا (اعزاز) ہے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنے یا بولنے پر شدت و ضد کرنے والے آیت کریمہ کے لفظ اکبر پر ذرا خوب غور سے نظر انصاف فرما کر بتائیں کہ صحابہ و اہل بیت کے ناموں کے ساتھ تمہارے منتخب و تجویز کئے ہوئے الفاظ زیادہ موزوں مناسب ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ و فرمودہ الفاظ زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں پھر کیا جواز و عدم جواز کے لحاظ سے یہ مسئلہ اس شرعی نوعیت کا حامل ہے کہ اس پر مناظرہ کے جھوٹے چیلنج اور جدال و فساد کے طوفان کھڑے کئے جائیں

۱۱۔ غیر نبی پر صلوة اور سلام جمہور کے مذہب کے مطابق استقلالاً و ابتداءً جائز نہیں اتباعاً جائز ہے (فتاویٰ فیض الرسول)

لفظ "علیہ السلام" کسی صحابی یا اہلبیت کے لئے استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں بالطبع غیر نبی پر جائز ہے مشقی احمد یار خان صاحب نے "شان حبیب الرحمن" میں عالمگیری کے حوالے سے فرمایا ہے کہ استقلالاً غیر نبی پر درود یا سلام بھیجنا بصیغہ غیب منع ہے قرآن و سنت کے علاوہ عام رواج میں بھی بعض الفاظ مخصوص ہو جاتے ہیں جو ہر ایک کے لئے مستعمل نہیں ہو سکتے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں العرف یخص بعض الکلمات ببعض الحالات والتجاوز عنہ یعد سوء الادب کما لا یقال نبینا عزوجل وان کان قطعاً عزیزاً یعنی عرف عام بعض الفاظ کو بعض حالات میں اس طرح خاص کر دیتا ہے کہ اس کو چھوڑنا بے ادبی شمار ہوتا ہے جیسا کہ یہ کہنا ہمارے نبی عزوجل اگرچہ

آپ ﷺ عزت و جلال والے ہیں (فتاویٰ نعیمیہ)

رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ مسموع و معمول (مشہور) نہیں ہیں صلوة و سلام انبیاء کرام کی تبعیت میں امت کے افراد پر نام بنام اجمالاً و تفصیلاً دونوں طرح جائز ہے (فتاویٰ خلیلیہ جلد اول)

نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ صلوة و سلام کی تخصیص واجب ہے اس میں کسی اور کو ان کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔۔۔ آئمہ و علماء وغیرہ کو عرفان و رضوان سے ذکر کیا جائے صدر اول میں یہ روش رائج و معروف نہ تھی اس کو اہل بدعت (شیعہ) نے بعد میں ایجاد کیا وہ اپنے اماموں کو نبی کریم ﷺ کے ساتھ شریک و مساوی قرار دیتے ہیں ان کے طریقے سے اجتناب و احتراز واجب ہے اور آل و ازواج، ذریت کا ذکر بوجہ تبعیت و اضافت ہے۔۔۔ سلام صلوة کے معنی میں ہے تنہا غیر نبی پر مستعمل نہ ہوگا۔۔۔۔۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے یہ طریقہ آداب نبوت کی رعایت میں اسلم و اقرب ہے اور صحیح یہ ہے کہ غیر نبی پر صلوة و سلام مکروہ تنزیہی اہل بدعت (شیعہ) کا شعار ہے کہ وہ اہل بیت پر اصلۃً صلوة و سلام بھیجنے لگے ہیں (مدارج النبوت جلد اول)

لیکن لفظ صلوة کو نبی اکرم ﷺ کی تعظیم کے لئے خاص کیا گیا ہے لہذا اس سے عدول نہ کیا جائے گا۔ اور آپ ﷺ جس پر چاہیں لفظ صلوة فرمائیں یہ آپ ﷺ کے خصائص میں سے ہے دوسروں کو غیر نبی اور غیر فرشتہ پر یہ لفظ جائز نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے سوا کسی پر صلوة درست نہیں اصحاب شوافع کہتے ہیں کہ ابتداً غیر انبیاء پر صلوة مکروہ ہے

ایک قول کے مطابق حرام ہے اور سلام کا لفظ بھی صلوة کے معنی میں ہے لہذا غیر انبیاء کے غیب پر سلام

نہ بھیجا جائے (یعنی علیہ السلام نہ کہا جائے) اور زندہ و مردہ کے لئے برسبیل خطاب لفظ سلام کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں (خصائص کبریٰ)

انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ ”علیہ السلام“ استقلالاً یا ابتداءً لکھنا یا بولنا شرعاً ممنوع ہے علماء نے اسے انبیاء کے ساتھ خاص لکھا ہے البتہ ان (انبیاء) کی تبعیت میں غیر نبی پر درود و سلام بھیجا گیا ہو تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ جد الممتار میں نقل فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی کے ساتھ ”علیہ السلام“ جداگانہ طور پر لگانا بدعت ہے جس سے بچنا ضروری ہے حضرت ملا علی قاری نے فقہ اکبر میں صراحت فرمائی کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو ”علیہ السلام“ کہنا روافض کا شعار ہے میں کہتا ہوں جب اس کی ممانعت پر اجماع منعقد ہو گیا تو اس کے ارتکاب کا کوئی معنی نہیں (جد الممتار جلد ۵ صفحہ ۱۶۱) صحابہ و اہل بیت کے ناموں کے ساتھ لکھنا چاہیے غیر نبی پر ”علیہ السلام“ ناجائز کہنے والے کو جو یہ کہے کہ تیرا خانہ دل ایمان سے خالی ہے وہ سخت حماقت و جہالت ہے اور اس میں علماء کی توہین بھی ہے لہذا ایسے شخص پر لازم ہے کہ اپنے اس قول سے توبہ کرے۔ (دارالافتاء اہلسنت مفتی فضیل رضا قادری عطاری مسجد کنز الایمان بابرہ چوک کراچی)

سلام اعلیٰ حضرت میں نبی کریم ﷺ کے بعد صحابہ پر سلام کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد خود اعلیٰ حضرت پر سلام کا تذکرہ ہے لہذا اس میں حرج نہیں۔ (وقار الفتاویٰ)

لفظ ”علیہ السلام“ مسئلہ مختلف فیہ ہے تاہم مستقلاً کسی کے لیے علیہ السلام نہ کہنا چاہیے اور تنہا کہنے میں حرج نہیں (فتاویٰ جامعہ نظامیہ لاہور)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں الخ صلوة وسلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ ص ۲۳۹
 کے سوا کسی کے لیے نہیں ہاں بہ جمعیت جائز ہے۔۔۔۔۔ صحابہ کرام کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ اور تابعین
 علماء، شرفا کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہنا یا لکھنا مستحب ہے (فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳، ص ۳۹۰)

لباس کا رنگ

عن سمرة ان النبي ﷺ قال البسوا الثياب البيض فانها اطهر واطيب و كفنوا فيها موتا
 کم رواہ احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ترجمہ: روایت ہے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم ﷺ نے
 فرمایا سفید کپڑے زیادہ پہنو زیادہ پاکیزہ اور بہت سترے ہیں اور بہت پسندیدہ ہیں اور اس میں
 اپنے مردوں کو کفن دو۔

سرخ و گلابی لباس خوارج دشمنان اہل بیت اطہار مسرت کے لئے پہنتے ہیں سیاہ (کالا) لباس
 روافض (شیعہ) پہنتے ہیں اس سے اجتناب چاہئے (فتاویٰ امجدیہ)

روافض زمانہ (شیعہ) عموماً مرتدین ہیں لبس تاج الرفضہ مکروہ کراہۃ تحریم۔ یعنی شیعہ کی
 وضع و لباس اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے (فتاویٰ مصطفویہ)

نبی اکرم ﷺ کا لباس اکثر سفید ہوتا اور فرماتے سفید لباس زندہ ساتھیوں کو پہنایا کرو اور فوت شدہ کو

کفن سفید رنگ کا دیا کرو (جو اہل ہمار)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جس
 میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ وہ بہت پاکیزہ، بہت صاف اور بہت اچھے
 ہیں اپنے مردوں کو کفن ان میں دو۔ شیخ محقق اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم
 ﷺ نے سفید کپڑوں کو بہت زیادہ پاکیزہ اس لئے فرمایا کہ وہ جلد میلے ہو جانے کے باعث زیادہ
 دھوئے جاتے ہیں برخلاف رنگ دار کے کہ وہ دیر سے دھوئے جاتے ہیں اور آپ ﷺ نے سفید
 کپڑوں کو بہت صاف اس لئے فرمایا کہ وہ رنگوں کی آمیزش سے بھی پاک ہوتے ہیں اور آپ ﷺ
 نے بہت اچھے اس لئے فرمایا کہ طبیعتِ سلیمہ ان (یعنی سفید) کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے
 (اشعۃ اللمعات جلد ۵ اب جو لوگ یہ خواہشات رکھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے کپڑے جلد پھٹ
 جائیں کہ ان کی جگہ بھی کالے ہوائیں) کیونکہ وہ دہابیت سے شیعیت کی طرف جاتے ہوئے راستہ
 میں سنیوں کو لوٹنے کے لئے سفید کپڑے پہنے ہوئے اکتا گئے تھے) کالے کپڑوں سے اتنی محبت اور
 سفید سے اتنی بیزاری و اعراض واضح کرتا ہے کہ ہمارے مہربان طبیعتِ سلیمہ کو طبیعتِ کمینہ پر قربان
 کر چکے ہیں یا پھر کالے ناگوں کے شکبے میں پھنس گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور سب کو
 ان کے شر سے بچائے آمین۔

طوالت کے خوف سے ہم اس بحث کو مفتی احمد یار خان صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کردہ چند باتیں بیان کر
 کے ختم کرتے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں حدیث کا لفظ اطیب پسندیدگی کے معنی میں خواہ شرعاً،
 عقلاً، طبعاً ہو مگر اس حدیث میں لفظ اطیب طبعاً پسند کرنے کے معنی میں ہے مفتی صاحب علیہ الرحمۃ

مزید فرماتے ہیں کہ وہ جو وارد ہوا ہے (بعض روایات میں) کہ حضور ﷺ نے سیاہ عمامہ باندھایا سرخ دھاری دار جوڑا پہنایا عورت کا کپڑا رنگین ہو وہ سب بیان جواز کے لیے ہے بعض طلباء، صوفیاء رنگین کپڑے پہنتے ہیں وہ محض اس لیے کہ جلد دھونا نہ پڑیں ورنہ مسلمان کے لئے سفید کپڑا بہت ہی بہتر ہے (مرآة شرح مشکوٰۃ جلد ششم) امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں صحاح ستہ کی کتاب ابن ماجہ شریف میں حضرت ابووردادہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خوب صورت ترین لباس جسے پہن کر تم مساجد میں اور قبر میں (بحالت کفن) اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو وہ سفید لباس ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ سفید لباس و کفن سب سے بہتر و افضل ہے اور اس روایت کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح کہا (تفسیر درمنثور جلد سوم)

کالا لباس ہمارے یہاں روافض (شیعہ) کا شعار ہے اس سے بچنا لازمی ہے چنانچہ شامی شریف کا ارشاد ہے اما کانوا من خلطين اهل الاسلام فلا بد من تمييزهم عنا يميز بهم لباسهم و هيئته شعار الروافض فيجب التحزر عنه جهان مسلمان (کافر) اکٹھے رہتے ہوں وہاں لباس وہیت میں (کافروں) سے تمیز بہت ضروری ہے۔۔ اور روافض (شیعہ) کے شعار سے بچنا واجب ہے (فتاویٰ نعیمیہ)

مفسر قرآن، فیض الملت حضرت علامہ

فیض احمد اویسی صاحب فرماتے ہیں:-

اسلامی قاعدہ ہے کہ بد مذہب قوم کے ساتھ کسی طرح بھی تشابہ نہ ہو ان سے تشابہ کے تمام طور طریقے

ترک کرنے چاہئیں پھر اگر کوئی اس تشبیہ کو قصد او ارادہ عمل میں لاتا ہے تو حرام ہے ورنہ مکروہ تزیینی ہے۔۔۔ جیسا کہ سر اور مونچھوں پر اُسترا پھیرنا جائز تو تھا لیکن یہ خوارج (دہابیوں) کا شعار ہو گیا ہے اس لیے علماء نے سر اور مونچھیں چٹ صفا کرنے سے روک دیا یونہی سیاہ لباس جائز تو ہے لیکن اس سے شیعہ روافض سے تشابہ ہوتا ہے اس لیے روکا گیا ہے بالخصوص ماہ محرم میں بلکہ علماء کرام بد مذہب کے خلاف عمل کو جب کہ ان کا زور ہو ان کے خلاف عمل کو زیادہ ثواب سمجھتے تھے (کتاب مسئلہ ”علیہ السلام“)

سیاہ عمامہ: مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھروی فرماتے ہیں نبی معظم ﷺ نے ہمیشہ سفید لباس اور سفید عمامہ استعمال فرمایا اور سفید لباس ہی آپ ﷺ کو پسند تھا اور زندوں مردوں کے لئے سفید کپڑے کا ہی حکم فرماتے تھے کہ یہی نوری لباس ہے جو شخص آپ ﷺ کا پسندیدہ سفید لباس پہنے گا وہ آپ ﷺ کو پسندیدہ و مقبول ہوگا اور سیاہ عمامہ کی روایات میں ایک ہی موقع یعنی فتح مکہ کا ذکر ہے اس موقع کے مختلف اوقات میں جس نے جیسے دیکھا تھا ویسے ہی بیان کیا اس لئے کہ شہر میں داخلہ کے وقت سر انور پر خود تھا جو بعد میں (مزاحمت نہ ہونے پر) اتار دیا گیا تھا نیچے جو عمامہ شریف تھا وہ خود سے رگڑ کے باعث سیاہ ہو گیا تھا وہ رنگا ہوا سیاہ نہ تھا چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس ہمدانی کی روایت سے یہی بات ثابت ہے کہ خود کی رگڑ کا اثر عمامہ شریف پر کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا (ملخصا مقیاس خلافت) زرد رنگ کی سب روایات منقطع ہیں۔ ہمارے حریف اگرچہ دروغ و تقیہ کے حامل و ماہر ہیں مگر چونکہ انھوں نے خود مولانا محمد عمر اچھروی کو مستند مانتے ہوئے ان کا حوالہ

طلب کیا ہے اس لئے ان کی کتاب مقیاس خلافت کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں کہ ضرور ملاحظہ کریں۔

کعبہ شریف کا غلاف سفید تھا: مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت سے

تمھاری کالی فکر کے جوابات تمھارے جنم سے پہلے رقم کردئے تھے اور ثابت کیا ہے کہ کعبہ شریف کا غلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سفید ریشمی ہوتا تھا سیاہ ریشمی غلاف جاج بن یوسف کی ایجاد ہے (مقیاس خلافت) کیا آپ افکار جاجی کے دلدادہ تو نہیں ہو گئے؟ امام عبدالرزاق نے کہا ابن جریر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء ثلاثہ قبایلی و یمنی سفید چادروں کا غلاف چڑھایا کرتے تھے (نزہۃ القاری شرح بخاری)

اہل سنت کا طرہ امتیاز: درجات و مراتب کو ملحوظ رکھ کے کمال تعظیم و آداب بجا

لانا اہل سنت و جماعت کا معلوم و مشہور شعرا عالی و قار ہے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، اس سے کسی نے پوچھا کیا آپ دونوں میں وہابی اور بریلوی کا فرق بتا سکتے ہیں تو مجاہد ملت نے فوراً فرمایا ہاں غور سے سنو وہابی ابلیسی ہیں اور ہم بریلوی جبرائیلی ہیں مطلب یہ ہے کہ فرق مراتب و آداب کا لحاظ نہ رکھنا یہ وہابیوں کا طریقہ و پہچان ہے اور ہر کسی کے مراتب و آداب کا لحاظ رکھ کے غلامی و اطاعت اور محبت کرنا یہ جبرائیلی سنت بریلویوں کا طرہ امتیاز اور شعرا عالی کا رہے۔ مجاہد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے سلف و خلف کا افراط و تفریط اور غلو کی ضلالتوں سے کبھی کسی دور میں

دور کا بھی واسطہ نہیں رہا بلکہ ایسے مریض ضلالت شخص کو اہل سنت سے خارج قرار دیا اور عوام اہل سنت کو اسکی گمراہی سے بچنے کی سختی سے تلقین کی کیونکہ اہل سنت کے عقائد و اعمال اللہ تعالیٰ کے فضل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اتنے قطعی و ٹھوس اور واضح و دو ٹوک محققانہ و مضبوط قرآن و سنت کے ماخوذ و محفوظ اور ایسے کامل و مقبول ہیں کہ اب قیامت تک ان میں کسی جاہل بڑھی کو کمی و زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں اور انھیں ثابت کرنے کے لئے کسی دھونس و دھن، دشنام و طعن، تقیہ و کذب، مکر و فریب اور منافقت و دروغ کی معیوب و مجروح، کمزور و کمزورہ بیساکھیوں کی قطعاً ہرگز کوئی ضرورت نہیں یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کو آج تک کسی بھی میدان مقابلہ میں خجالت و شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ابلیس اپنے بغل بچوں سمیت لباس خضر میں آتا رہا اور اہل حق کے گروہ میں گھے ہوئے پردہ نشین بھی مجبوراً یا مرغوباً ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کی معاونت و مدد کرتے رہے مگر تمام حالات و اوقات میں وعدہ الہیہ لا یضرکم کیدھم شیاء (شیطان کی مکاریاں ذرا بھر بھی حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں اور فرمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ) (حق غالب ہے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا ہمیشہ سچ ثابت ہوا اور اہل طاعت حق میں کسی قسم کی تلیسیات و اختلاط کرنے میں نہ صرف ناکام و نامراد رہے بلکہ حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹتے رہے اور انشاء اللہ قیامت تک مٹتے رہیں گے۔ مذہب اہل سنت کے افکار و اعمال میں تاریک بکوت جتنی بھی اگر کوئی کمزوری ہوتی تو یہودی و عیسائی سرمایہ و اشارہ پر دندنانے والے کب کے اسے بے نشان کر چکے ہوتے مگر وقت نے ہمیشہ ثابت کیا کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیئے۔ ہمارے ضلع راولپنڈی بالخصوص تحصیل گوجرخان میں بھی کچھ عاقبت نااندیش شتر بے مہار علم و اخلاق سے مکمل تہی دامن

حضرات نے وہابیت سے شیعیت کی طرف جاتے ہوئے بڑی رازداری اور گہری سازش سے نقب زنی کی مکروہ کوشش یوں کی ☆ کہ حب آل رسول ﷺ کی آڑ میں سب سے پہلے ☆ نعرہ تحقیق پر طعن شروع کیا پھر ☆ غیر نبی پر علیہ السلام جائز نہ سمجھنے والے پر حرامی کی تہمت لگائی پھر ☆ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں سست و گھٹیا گفتگو کر کے اجتماع عام میں بڑی ڈھٹائی سے خبث ریزیاں کیں گئی پھر ☆ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے موازنہ کا دروازہ کھولا گیا پھر ☆ نوبت آنجا رسید کہ انبیاء علیہم السلام کی شان و عظمت کر درار پر حرف گیری کے نشتر پھیلنا شروع کر دیئے اور اخلاقی لحاظ سے جس آوارگی کا مظاہرہ کیا گیا اس پر اللہ کی پناہ، جسے ہم پر اعتماد نہ ہو آڈیو ویڈیو سیڈیز ہم سے طلب کر کے خود دیکھ لے کہ یہ ذناب فی نصاب کس دریدہ ذنی سے خبث فشانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء حتیٰ کہ ☆ سید الانبیاء ﷺ کے دور میں بھی پوری دنیا سے کفر ختم نہ ہوا آخر زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا امام مہدی رضی اللہ عنہ آئے گا تو پوری دنیا سے کفر ختم کریگا یہ غیر نبی کا نبی سے تقابل کرنا کفر سے کم نہیں ایسی طرز خرافات کون سی اہل سنت کی خدمت ہے۔ بعض افراد نے مرعوب یا ضرورتاً انھیں سپورٹ کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا مگر خواہشات کی تکمیل میں ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا تھا نہ آیا کیونکہ تائید ایزدی قلت و کثرت کے زادیوں سے ماوراء صرف حق کے علم برداروں کے ہمیشہ شامل حال رہی ہے۔ ہر چند کہ مذکورہ بالا مسائل آج سے صدیوں قبل ہمارے اسلاف پوری تحقیق و تدقیق سے اجماعاً ثابت فرما چکے ہیں جس کی تفصیلات ان کے نادر و قیمتی شذرات و تصنیفات میں دیکھی جاسکتی ہیں مگر عامۃ الناس عدم استطاعت یا تنگی وقت کے باعث مسئلہ کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر ہوتے ہیں جس کے باعث

وہ بہرہ و پیوں کے لبادہ سے متاثر یا پروپیگنڈہ سے مرعوب ہو کر انصاف کا دامن ڈھیلا کر دیتے ہیں اور ایمان جیسی قیمتی متاع کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اسی لئے ہم نے اپنی اس مختصر تحریر میں قرآن و سنت اور بزرگ آئمہ اسلاف کے کچھ موتی صرف انصاف کی امید رکھتے ہوئے اور جب توہم حق کی طرف متوجہ کرنے کے لئے جمع کئے ہیں فاعتبروا یایا ولی الابصار۔ (المحشر: ۲) عبرت پکڑو اے عقل والو۔ دوسروں پر غریب اللسانی کی طعنہ بازیاں، حرامی کی بہتان طرازیوں اور بد صورتی کی پھبتیاں گس کے اپنی تحقیقی گروندیوں کی بھرمار سے دھاک بٹھا کر یہ پوٹھو ہار کے امیر اللسان مرزا غالب اور حسن کے طاؤس بننے والے اپنی ذات سے بھی عبرت نہیں پکڑتے اور صد افسوس ہے ان علم کے قارون، مدعیان علم و فن، صاحبان خرقہ و سالوس پر جن کی طفل تکیوں اور تجاہل عارفانہ پر تو ماتم ہی کیا جاسکتا ہے جو کتاب کے متن کو چھوڑ کر کتاب کی غلطیوں سے صاحب کتاب کا نظریہ بڑی ڈھٹائی سے ثابت کرنے کی سعی و لاج حاصل کرتے ہیں پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لئے مناظرہ کا جھوٹا چیلنج بھی کر دیتے ہیں مگر وقت آنے پر گرگٹ کی طرح رنگ اور شتر مرغ کی طرح پینتر ابدلتے ہوئے صاف مکر جاتے ہیں کہ ہم نے مناظرے کا چیلنج نہیں دیا

دروغ گوئی کی کرشمہ سازیاں: کا عالم یہ ہے ان کے منافقانہ عمل سے

ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قلوب و اذہان پر خمس و خبث کے ایسے غلیظ پردے پڑ گئے ہیں اور ضعف حافظہ یا منافقت کا یہ عالم ہے کہ ایک جلسہ میں کہتے ہیں الصحابی کالتحوم میں اضافت جمع الی الواحد معنی استغراق کا دیتی ہے (یعنی ہر وہ آدمی جو صحابی ہے ہدایت پر ہوگا) امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو بڑے

بلند ہیں جس نے حضرت امیر معاویہ کو بحالتِ ایمان دیکھ لیا اُس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یہ صاحب دو ماہ بعد ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم ﷺ تین قبیلوں کو جن میں بنو امیہ بھی ہیں بُرا جانتے تھے سوائے کچھ افراد کے محقق موصوف نے یہ عقدہ کشائی نہیں فرمائی کہ انھوں نے کس تفسیقی و تجزیلی یا عفریتی و استدراجی طریقہ واردات سے حدیث کے مفہوم استغراق و عموم کو مقید و مخصوص کر کے پورے تین قبیلوں کو مغضوب بنا دیا ہے موصوف نے ایک جلسے میں نعرہ تحقیق کا اثبات کرتے ہوئے کہا کہ نعرہ تحقیق قاضی مظہر کا نعرہ نہیں جو نعرہ تحقیق سے پریشان ہو وہ سنی کیسے ہے جبکہ دوسرے جلسے میں ان کے سامنے کھلے لفظوں نعرہ تحقیق کا بغیر تحقیق کے انکار کیا جاتا رہا مگر موصوف کی رگِ سنیت اُس سے مس نہ ہوئی۔

پوٹھوہار کو قاضی محمد شفیع صاحب اور مولوی محمد شاہ نواز رحمہما اللہ تعالیٰ نے بڑی جانکاہی سے رافضیانہ و خارجیانہ طاعونِ تلبیساتِ اکبری سے بچایا خطبہ پوٹھوہار ان مسلمہ مستند حضرات کی شان و جلالتِ علم و کشف کے آپ بھی معترف و مشتہر رہے ہیں آپ کو قلابازیاں کھاتے کھاتے عمر کے اس حصہ میں جو دُور کی سُوجھی ہے اُن خرافات کی ایک لمحہ کے لئے ذرا بھر بھی مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت میں اختلاط کی کوئی گنجائش ہوتی تو یہ علم و روحانیت اور اخلاص و للہیت کے پیکر ان مجسم حق و باطل میں تمیز کی اتنی شدت سے کوشش نہ فرماتے آپ کو اگر کوئی مجبوری ہے تو جو چاہیں کریں مگر اہل سنت کو معاف رکھیں کہ وہ آپ کی ابلسی تلبیسات سے سخت بیزار ہیں:

گھنگرو کی طرح بجتے ہی رہو گے ہر کام میں

کبھی اس خصام میں کبھی اس گام میں

مولوی صاحب موصوف نے لفظ 'یار' کے استعمال کو بھی بڑا معیوب قرار دیا ہے تو اگرچہ اُمت کے جید بزرگوں نے جائز سمجھتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا ہے یہاں تک کہ فخر العشاق، امام بے باک، مجدد علی الاطلاق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جو ناموس مصطفیٰ ﷺ کے معاملہ میں انتہائی حساس ہیں انہوں نے بھی "حدائقِ بخشش" میں کئی جگہ لفظ 'یار' استعمال کیا مگر طوالت کے خوف سے ہم صرف مولوی صاحب موصوف کی توجہ اُن کے فرمودہ چوٹی کے مورخ کی کتاب 'ضیاء النبی' کی طرف دلاتے ہیں جس میں پیر صاحب نے کئی مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کا یار لکھا ہے۔ مولوی صاحب نے نعرہ تحقیق کے خلاف کوئی ضعیف دلیل و قول یا معقول وجہ پیش نہیں کر سکے صرف یہ حکم دیا کہ یہ نعرہ نہ لگاؤ یہ نعرہ وہابیوں کا ہے مولوی صاحب نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ ایسا صریح جھوٹ بولا ہے کہ جھوٹ کو بھی شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ اسی مسجد میں تیس ۳۰ سال یہ نعرہ لگاتے رہے اب کہتے ہیں کہ جو نعرہ میں تمہیں دوں وہ لگاؤ کتنی عجیب بات ہے کہ موصوف اپنے گریبانِ علمی میں جھاگے بغیر حجۃ الاسلام بن گئے ہیں اور اپنی گتھیء شعور سے جو نعرے نکالے ہیں وہ سن کے کوئی ہنسے یا روئے کہتے ہیں میں نعرہ دیتا ہوں: نعرہ صدیق، نعرہ فاروق، نعرہ عثمان یہ ہیں مولوی صاحب موصوف کی تحقیق تجھیل کے اختراع کیے ہوئے نعرے گویا صدیق، فاروق، عثمان مولوی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ایسے روکھے پھیکے نعروں کی کوئی تحقیق بھی بیان نہیں کی گئی کہ یہ کس آیت، حدیث یا امام و شیخ کے قول و فرمان سے ثابت ہیں اس مجددِ فسق اور ڈھولِ رفض کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میری علمی و عملی حیثیت و اوقات کیا ہے اہلسنت اپنے جید و مستند اسلاف کی تعلیمات کو چھوڑ کر کیونکر آپ جیسے لنگور پر نرور کی معروضات و مغفلتات کو قبول کریں گے سنی تو اپنے امام بریلوی کے اس تحقیقی عقیدہ کہ

”جنان بنے گی محبان چار یار کی قبر۔۔ جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے“
 کے مطابق نبی کریم ﷺ کے چار یاروں کی عظمت کا یہ نعرہ لگاتے رہیں گے دعوت اسلامی کے
 مفتی ”فضیل رضا قادری عطاری“ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار لگانا جائز
 ہے (دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد باری چوک کراچی)
 جو شخص نعرہ تحقیق کو خارجیوں کا نعرہ کہے گویا اس کے دل میں بغضِ صحابہ ہے مذکورہ شخص رافضی ہے یا
 گمراہ ہے (فتویٰ جامعہ نظامیہ لاہور)

غریب شہر ہوں میں سُن تو لے مری فریاد
 کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد
 مری نوائے غم آلود ہے متاعِ عزیز
 جہاں میں عام نہیں دولتِ دلِ ناشاد



آفتاب گولڑ حضرت پیر شاہ گولڑوی کی تہذیب

اللہ تعالیٰ کو اعتدال اور میانہ روی ہر کام میں پسند ہے۔ اور یہی صراطِ مستقیم ہے جس کی درخواست کے لئے ہم معمور ہیں۔ غلو اور تجاوز گودین ہی میں ہو، موجب ضلالت و غضبِ الہی ہے۔ بہت سے ایسے کام جوئی ذلتِ صحیح بلکہ من جملہ اسبابِ کمال ایمان کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں بوجہ غلو اور حد سے بڑھ جانے کے بدبطیت اور فاسد الزائے انسان ان ہی امورِ صحیحہ سے نتائجِ فاسدہ استنباط کر لیتا ہے مثلاً حُبِ اہل بیت، شہادتِ قرآن و حدیث کمال ایمان کا موجب ہے بلکہ بلحاظِ اصولِ عین ایمان سمجھا گیا ہے، اس اصلِ صحیح میں غلو کرنے والے دو فرقے ہوئے۔ ایک نے بغض و سب صحابہ کرام کا راستہ لے لیا، دوسرا معاذ اللہ خدا و رسول اور جبریل تک کے گستاخ ہوئے۔ بدیں خیال کہ رتبہ اہل بیت اور صحابہ سے تقدیم پر نص کیوں نہیں وارد ہوئی، یہ سب اسی اصلِ صحیح حُبِ اہل بیت میں غلو کے نتائجِ فاسدہ ہیں۔ لہذا حُبِ اہل بیت مقبولانِ خدا و صاحبِ اعتدال اور صراطِ مستقیم پر قائم رہنے والوں کیلئے کو مفید و موجب کمال ہوتی لیکن افراط و تفریط کرنے والے دونوں فریق من جملہ گمراہوں کے ہوئے۔ (مختصاً تصفیہ مابین سنی و شیعہ)

ہماری جدوجہد کا مقصد فقط نظامِ مصطفیٰ ﷺ کا نفاذ اور مقامِ مصطفیٰ ﷺ کا تحفظ

- ☆ دینِ اسلام کی عالمگیر تعلیمات کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔
- ☆ تمام بد عقیدہ، لادینی قوتوں کے خطرات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی سعی کرنا۔
- ☆ معاشرتی برائیوں، غیر اسلامی رسوم، لسانی اور علاقائی تعصبات کے آگے بند باندھنا۔
- ☆ غلبہٴ اسلام اور مذہبِ اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کیلئے ضروری لٹریچر و کتب شائع کرنا۔
- ☆ لوگوں کی روحانی تربیت کیلئے اولیائے کاملین، بزرگانِ دین کی تعلیمات کو عام کرنا۔
- ☆ لوگوں کو جذبہٴ عشقِ رسول ﷺ میں سرشار، عظمتِ صحابہ و اہل بیت کا علمبردار اور محبتِ اولیاء کا گفتار بنانے کیلئے جشنِ میلاد و معراج النبی ﷺ، ایامِ خلفاء راشدین اہل بیت طاہرین اور اعراسِ بزرگانِ دین پر پاکیزہ روحانی محافل کا انعقاد کرنا۔